

18

پیدلوشی شمس



مؤلفہ محترمہ شمس عباد الرحمن صاحبہ

۱۱۸
راجہ رام کمار پریس لکھنؤ میں چھپا

مکتبہ جدید لاہور

مُصْطَفَى مَا جَاءَ إِلَّا بِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ

میشی

آنحضرت کی حیاتِ طیبہ اور اُسوۂ حسنہ قرآن و حدیث
کی روشنی میں

مؤلفہ

محترمہ میسز عباد الرحمن صاحبہ

باہتمام

بی بی کیور سیرٹنگ پرنٹ

ڈراپتھ رام کمار پریس وارت ہول کینور پریس لکھنؤ

پین پینٹ

۱۹۵۰ء قیمت ایک روپیہ عہ پار دوم

پینٹنگ سیرٹنگ لکھنؤ

۲۹۷۹۹۲۱
۲۸۲
۴۱۵۹

DATA ENTERED

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۲	جد امجد کی سرپرستی	۱۳	۵	کتاب کے بارے میں مشاہیر کی آراء	۱
۲۲	محترم چچا کی کفالت	۱۴	۹	عرض حال از مؤلفہ	۲
۲۲	بچپن میں اہلب کا واقعہ	۱۵	۱۶	تعارف از نورانی صاحب	۳
۲۲	حرب فجار	۱۶	۲۰	حمد "نظم" کتبیں	۴
			۲۱	محفل میلاد شریف کی فضیلتیں	۵
	دور دوم		۲۵	عرب کا مختصر حال	۶
۲۶	تجارت کا مشغلہ	۱۷	۲۶	تہذیب و تمدن	۷
۲۷	شرک سے پرہیز	۱۸	۳۰	نعم و رواج	۸
۲۸	عبادت	۱۹	۳۱	ولادت باسعادت	۹
۵۰	خلیہ شریف	۲۰	۳۶	حسب و نسب	۱۰
۵۱	حضرت خدیجہؓ	۲۱		دور اول	
			۳۹	آنحضرت کے ابتدائی حالات	۱۱
۵۲	نبوت	۲۲	۴۱	مدینہ کا سفر	۱۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۳	تعلیمات الہی کے عملی نمونے	۵۸	۳۸	عورتوں سے حسن سلوک	۹۰
۲۴	اخلاق محمدی	۶۰	۳۹	مزاج میں سادگی	۹۲
۲۵	خلق عظیم و خصائل پاکیزہ	۶۷			
۲۶	حسنِ خلق	۷۰			
۲۷	عدل و انصاف	۷۶	۴۰	دور چہارم	
۲۸	سخاوت	۷۸	۴۱	معراج محمدی	۹۸
۲۹	رسول خدا کا ایثار	۸۰	۴۲	فرضیت نماز و روزہ	۱۰۱
۳۰	عفو و درگزر	۸۱	۴۳	حق شفاعت	۱۰۶
۳۱	بے زبانوں پر رحم و کرم	۸۲	۴۴	بارہ احکامات	۱۰۸
۳۲	غلاموں پر شفقت	۸۳	۴۵	سلام اور تہنیتی نقلیں	۱۱۰
۳۳	تعزیت و عیادت	۸۴	۴۶	دُعا دعوتی	۱۱۱
۳۴	حسنِ سلوک	۸۵	۴۷	آنحضرتؐ کے پاکیزہ اقوال	۱۱۲
۳۵	پڑوسیوں سے برتاؤ	۸۵	۴۸	آنحضرتؐ صلعم کے زندگی	۱۲۲
۳۶	بچوں پر شفقت	۸۷		کے مشہور واقعات کی	
۳۷	اولاد سے محبت	۸۸		تاریخیں۔	

کتاب کے متعلق مشاہیر کی آراء

جناب مولانا طفیل احمد صاحب منگھوری علیگ

مصنف مسلمانوں کا روشن مستقبل

میں نے رسالہ "میلا و شریف" نوشتہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر عباد الرحمن صاحب دیکھا اس کی زبان نہایت سُستہ خیالات نہایت پاکیزہ ہیں اور انداز بیان دلکش ہے۔ امید ہے کہ وہ مستورات کے حلقہ میں بہت مقبول ہوگا۔

سید طفیل احمد منگھوری (علیگ)

نوٹ ۱۔ مولانا طفیل احمد صاحب اور مولانا اکرام اللہ صاحب کے خیالات کتاب کے پہلے مختصر ایڈیشن کے متعلق ہیں جو کتبہ جامعہ سے شائع ہوا تھا۔

رسالے گرامی مولانا اکرام اللہ خاں صاحب ندوی

رسالہ میلاد شریف مرتبہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر عباد الرحمن صاحب میں نے پڑھا
اس کا طریقہ تحریر سادہ و سلیس ہے، اور انداز بیان خطیبانہ اور دل نشین
ہے اور ہر فقرے سے بارگاہ رسالت میں حسن عقیدت کا اظہار ہوتا ہے
اس قسم کے رسالے ہمارے گھروں کی مجالس میلاد شریف میں پڑھنے
کے لئے بہت مفید ہیں اس لئے امید ہے کہ یہ رسالہ خواتین کے حلقے
میں خصوصیت کے ساتھ حسن قبول حاصل کرے گا۔
محمد اکرام اللہ خاں ندوی

”معارف“ فروری ۱۹۵۷ء

”مولود شمسی“۔ میلاد نبوی کی محفلوں میں جو کتابیں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں انکی بیشتر روایات غیر معتبر اور اسلامی عقیدہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ جن سے محفل میلاد کا اصلی مقصد یعنی اُسوۂ رسول پر عمل کی ترغیب کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن مولود شمسی سیرت نبوی کی معتبر کتابوں سے ماخوذ ہے اس لئے اس عیب سے پاک ہے اور مصنف نے واقعات کے انتخاب اور ان کی ترتیب و تحریر میں بڑے سلیقہ سے کام لیا ہے اور سوانح نبوی۔ آپ کے خلق اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو بڑے موثر اور دلنشین انداز میں تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف میلاد کی محفلوں میں پڑھنے کے لئے مناسب بلکہ مذہبی معلومات کی حیثیت سے عورتوں کے مطالعہ کے لائق ہے۔ انداز بیان نہایت شگفتہ اور دلکش ہے۔ اگر اس قسم کی کتابیں میلاد کی مجلسوں میں پڑھی جائیں تو ان سے بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔

رسالہ معارف اعظم گڑھ ماہ فروری

صفحہ

عرض حال

اُردو زبان میں اُس وقت میلاد النبی پر کئی مستند کتابیں موجود ہیں لیکن مقبول عام اور مروج وہ پرانی کتب ہیں جو ایک زمانہ ہو میلاد کی مجالس میں پڑھنے کی غرض سے تصنیف کی گئی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ اُن کے مصنفین کرام نے اُس وقت جب اُردو میں ایسی کوئی مختصر کتاب موجود نہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک کی محافل میں پڑھنے کے لائق ہوتی، اس باب میں قلم اٹھا کر ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا اور ایک دینی خدمت کو انجام دیا۔ یہ انہیں بزرگوں کی توجہ و محنت کا نتیجہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں اُن کے آقا و مولیٰ سید المرسلین، سرورد و عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے ذکر خیر کے ساتھ شیفتگی و عقیدت پیدا ہوتی گئی۔ اور میلاد النبی کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا۔ لیکن اس مسرت آمیز شوق عقیدت کے ساتھ ساتھ یہ افسوسناک پہلو بھی سامنے ہے کہ مروج کتابوں کے مصنفین نے سامعین کی دلچسپی و عقیدت کا زیادہ اور صحیح حالات و واقعات کا لحاظ اپنی تصانیف میں کم رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کی ترغیب و دلچسپی کی غرض

سے ہر قسم کی غیر مستند، ضعیف و موضوع روایات کو اپنا مندرجہ یا
 جو نہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے اور نہ پیغمبر اسلام کے شایان شان۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک
 کے کل حالات و واقعات اور آپ کے فضائل و معجزات کی تصدیق خود
 کلام الہی اور احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے اور اسلام کی تعلیم میں آپ کی
 ذات کامل کو غلو و آمیزش سے پاک رکھنے کی ہدایت شروع سے لے کر
 آخر تک کی گئی ہے قدم قدم پر اگلے بانیاں مذاہب اور ان کے پیروں
 کی مثالیں پیش کر کے آخری رسول برحق کی شان میں افراط و تفریط
 سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیرت ہے کہ باوجود اس تنبیہ کے
 مبالغہ آمیزی نے جگہ پائی۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان غلط و ضعیف و بے سند روایتوں
 کا بڑا حصہ انھیں میلاد کی کتابوں کے ذریعہ عوام میں پھیلا۔ جو مجالس
 میلاد کی غرض سے وقتاً فوقتاً تمام اسلامی دنیا میں لکھی گئیں۔ اردو
 زبان کے مصنفین کو جب اس کار خیر کا خیال آیا تو انھوں نے بھی
 روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیاطوں کو مد نظر نہیں رکھا اور ظہور
 نبوی کے واقعات کے متعلق جہاں سے جو روایت ہاتھ آگئی شامل
 تصنیف کر لی۔ رفتہ رفتہ ان روایات کا شمار صحیح احادیث میں ہونے لگا
 اسی کے ساتھ یہ ضرورت بھی پیش آئی کہ ان بیانات میں عوام کے مذاق
 کے مطابق روحانی جاذبیت کا بھی ایک نہایت ہی حصہ موجود ہونا چاہیے۔

اس کے لئے شاعرانہ تعلق سے کام لینا پڑا۔ ممکن ہے کہ بعض مصنفین کرام کی یہ نیت نہ ہو بلکہ عشق رسول میں وہ جو کچھ آنحضرت صلعم کے فضائل و مناقب میں لکھتے گئے اس پر تنقیدی نظر نہ رکھ سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دینی جوش نے انہیں ان روحانی قصوں اور افسانوں کا اپنے زور قلم سے مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا جن کا ذکر دوسرے مذاہب کے پیرو اپنے اپنے پیشواؤں کی شان میں کر کے جھومتے ہیں۔ حالانکہ صحیح حدیث شریف میں متعدد مقاموں پر آیا ہے کہ اسی جذبہ عشق نے شروع اسلام کے محدثین و علماء کو اس قدر محتاط بنا دیا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی بغیر تحقیق و یقین سے کہے آنحضرت کی طرف منسوب کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ یہ انہیں بزرگوں کی تحقیق و کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج تاریخ اسلام میں جہاں بہت سی خرافات شریعت و بے سرو پاروایتیں مذکور ہیں وہاں اس کی تصریح بھی موجود ہے کہ یہ زرائعیں سراسر غلط و موضوع ہیں اور متعدد مقاموں پر ثقہ راویوں سے ایسی حدیثیں منقول ہیں کہ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد جب کسی شخص نے کوئی غلط بات آپ کی نسبت کہی تو صحابہ کبار یا ام المومنین حضرت عائشہؓ نے اس کی تردید میں کہا "خدا اُس کو معاف کرے، رسول اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا یا کبھی نہیں کہا۔"

زیادہ قابل افسوس امر یہ ہے کہ ثقات محدثین و علماء کو اس غلطی کا احساس تو ضرور ہوا لیکن ان بزرگوں نے اس کی اصلاحات کی طرف کما حقہ توجہ نہیں فرمائی ان کی یہی خاموشی ہزاروں مسلمانوں کی گمراہی

اور غیر مسلموں کے اعتراضات کا باعث بن گئی۔ طبقہ جہلا اور مستورات کے عقائد کو جو نقصان پہنچا اس کی تلافی اگر اب ہو گئی تو یہ ایک معجزہ سے کم نہ ہوگی۔ علمائے نے اگر کبھی کچھ کہا تو یہ کہا کہ میلاد البیسی کی محفلوں کو قطعی ترک کر دینا چاہیے بعض نے فتاویٰ دیدیے کہ محفل میلاد کا منعقد کرنا ہی بدعت ہے کیونکہ اس میں اکثر باتیں خلاف شریعت ہوتی ہیں۔ ان فتاویٰ سے اصلی غرض تو پوری نہ ہوئی بلکہ یہ آپس کے فتنہ و فساد اور فرقہ بندی کی بنیاد بن گئے۔ رفتہ رفتہ اس فتنہ نے جو ہیبت ناک صورت اختیار کی اس کا ثبوت آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ خدا ہم پر رحم فرمائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے علماء و دین اپنے قیمتی وقت کا تھوڑا سا حصہ اس طرح اس کا رخیہ پر صرف کرتے کہ کثرت سے مختصر مستند میلادیں ایسی تصنیف کرتے جن کے ذریعہ سے آنحضرت صلعم کی ولادت مبارک سے لے کر وفات شریف تک کے صحیح تاریخی واقعات صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے آتے جن سے اپنے دین کی صحیح معلومات بھی حاصل ہوئیں اور اشاعت مذہب بھی۔ مگر افسوس یہ نہ ہوا بلکہ باوجود مخالفت میلاد خوانی کا شوق پڑھتا ہی گیا۔

حضرت سرور عالم، رحمۃ اللعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے ذکر خیر سے محبت و عقیدت اور آپ کی محفل میلاد منعقد کرنے کا شوق اور ولولہ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کو زیادہ ہے

مسلمان بہنیں محفل میلاد بڑے اہتمام اور پاکیزگی کے ساتھ منعقد کرتی ہیں لیکن افسوس کہ ایسی مبارک محفلوں میں جو مہل روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے مضرت انگیز اثرات بے پڑھی بیویوں پر تو پڑتے ہی ہیں تجربہ سے معلوم ہوا کہ انکا اثر جدید تعلیم یافتہ خواتین کے متسرزل عقائد کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ مجھے کئی ایسی "روشن خیال" مسلمان بہنوں کا حال معلوم ہے کہ جب کبھی وہ محفل میلاد میں شریک ہوئیں تو ہمہ وقت ان کے انداز سے یہی معلوم ہوتا رہا کہ وہ دعوٰی بالحد کوئی فرضی کہانی سُننے پر مجبور کی گئی ہیں۔

اردو میں سیرت پر اس وقت سب سے زیادہ مستند و دلکش کتابیں "سیرۃ النبی" اور "رحمۃ للعالمین" ہیں اول الذکر علامہ شبلی کی انتہک محنتوں کا ثمرہ ہے اور آخر الذکر قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری کی کاوشوں کا حاصل ہے۔ ان بزرگوں کے فیض کرم کا شکر یہ نہ ہاری زبان ادا کر سکتی ہے اور نہ ہم کبھی ان کے احسان سے سبکدوش ہو سکتے ہیں یہ انھیں کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اور پیغمبر اسلام کی سوانح اقدس کے پورے حالات اپنی صحیح و اصل صورت میں اردو دان مسلمانوں کے سامنے آئے ہیں۔ گو "سیرۃ النبی اور رحمۃ للعالمین" کی عبارتیں دقیق تنقیدی بحث، واقعات کی تفتیش، اور مسائل کی تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہیں لیکن زبان و ادب کی تمام خوبیاں لیے ہوئے ہیں اور محفل میلاد میں پڑھنے کے لیے ان سے بہتر اور کوئی

ذخیرہ اُردو میں موجود نہیں لیکن اپنے غیر معمولی حجم کی وجہ سے محفل میلاد کی نشست میں ان سے مضامین و روایات کا انتخاب کر کے پڑھنا مشکل ہے اس لیے خیال پیدا ہوا کہ ہمارے پیشوا تاجدار مدنیہ، سید المرسلین آنحضرت جنتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ایک مختصر لیکن مستند تذکرہ سیرۃ نبویہ اور رحمۃ للعالمین ہی سے ماخوذ سہل و عام فہم انداز میں ہونا چاہیے جو کم از کم خواتین کی محافل میلاد کے لیے مخصوص و مناسب ہو یہ خیال میرے دل میں ایک عرصہ سے تھا لیکن اپنی کوتاہیوں کے باعث اسے عمل میں لانے کی ہمت نہ ہوتی تھی تاہم بعض بزرگوں کی ہمت افزائی سے چند سال ہوئے میں نے ایک مختصر رسالہ "میلاد شمس" کے عنوان سے تالیف کیا اس کے متعلق مرحوم مولانا سید طفیل احمد صاحب منگلوری اور مولانا محمد اکرام اللہ خاں صاحب ندوی نے اپنی راہیں تحریر فرمائی تھیں جو شامل رسالہ ہذا ہیں ادھر کچھ دنوں سے پھر جذبہ شوق نے مجبور کیا اور دل چاہا کہ اس پرانے رسالہ میں کچھ ترمیم و اضافہ کر دوں۔ لیکن ہمت نہ ہوتی تھی۔ آخر اپنی اس خواہش کا ذکر اپنے استاد محترم جناب مولوی سید امیر حسن صاحب نوری ندوی سے کیا۔ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور اپنے قیمتی مشوروں اور صلاحوں سے مجھے جرات دلائی۔ چنانچہ اس بار میں آنحضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے حالات اور آپ کی حیات پاک کے واقعات کچھ اور اضافہ کے ساتھ لکھ کر اپنی مسلمان بہنوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ فرض ناشناسی ہوگی اگر میں اپنے استاد محترم کی خدمت

میں ہدیہ شکر گزار می پیش نہ کروں جنہوں نے اسلحہ دے کر اس رسالہ کو نہ صرف اشاعت کے لائق بنا دیا بلکہ اپنے قلم سے اسکے لئے پیش لفظ بھی تحریر فرمایا۔

آخر میں غرض بردار ہوں کہ اگر کتاب میں کوئی منطقی یا خامی نظر آئے تو پڑھنے والی بہنیں اور بھائی مجھے آگاہ کر میں تاکہ ان پر نظر ثانی کر سکوں۔ ساتھ ہی میری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ اس رسالہ کی تالیف سے میرا مقصد کتب میلاد پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے بلکہ اپنے آقا سرور کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت و محبت ہے اسی کے ساتھ یہ آرزو ہے کہ آپ کے میلاد مبارک کے موقع پر جو ہمارے لیے سعادت دارین ہے جو کچھ پڑھا یا کہا جائے وہ تمام تر صحیح حالات و واقعات پر مشتمل ہو تاکہ مسلمان بہنیں اور بھائی صحیح طور پر اس ذکر خیر سے مستفید ہوں۔ اس مقصد سے ان چند سطور کو سیرت پاک کے عظیم الشان ذخیرہ سے لے کر اس طرح ترتیب دے دیا ہے کہ خواتین کی مجالس میلاد میں سلسلہ وار پڑھا جاسکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میرا یہ مقصد پورا ہو اور مسلمان بہنیں میری اس کوشش سے مستفید ہوں۔

ناپیرنٹھی عباد الرحمن

تعارف

مولوی سید امیر حسن صاحب نورانی

محمد کہ ازل تا ابد ہر چہ ہست
بآرایش نام او نقش بست

خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں جن کے دل سرکارِ دو عالم کی محبت
و عقیدت سے لبریز ہیں مبارک ہیں وہ دماغ جو سرور کائنات کے
حالات میں غور و فکر کی قوتیں صرف کریں متبرک ہیں وہ ہاتھ جو دربار
رسالت میں ہدیہ خلوص و عقیدت پیش کریں اور دنیا کے سب سے بڑے
اور مقدس انسان کی "روشن زندگی" کو پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے
کی جدوجہد میں حصہ لیں۔

کون کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں ختم المرسلین سے زیادہ کسی انسان کے
حالات زندگی پر کچھ لکھا گیا۔ کون قوم اس کی دعوتِ ابرہہ ہو سکتی ہے کہ اس نے
اپنے بادی مذہب سے اتنی گہری محبت و عقیدت کا عملی ثبوت دیا ہے
جو مسلمانوں کو تاجدارِ دو عالم سے ہے کس نے اپنے رہنما کے حالات زندگی
کو ابتدا سے انتہا تک مکمل صحت و صفائی سے محفوظ رکھا۔ دنیا میں ایسی
کون ہستی ہے جس کا نام ہر روز پانچ بار چار دانگ عالم میں بلند ہوتا ہے۔
مسلمان ہر دور میں شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہوئے۔ آپ کی محبت اور

پیروی کی خاطر دنیا اور اس کی ساری رنگینیوں کو ٹھکرا دیا مشکل ہی سے کوئی جاہل اور نادان مسلمان ایسا ملے گا کہ جس کا چہرہ نام مبارک سنتے ہی فرط محبت سے دمک نہ اٹھے۔ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو دینی و مذہبی زندگی سے دور پڑے ہیں لیکن محبوب خدا کی محبت کو کسی قیمت پر بھی اپنے سینوں سے جدا نہیں کرتے۔

یہ آنحضرت کی محبت و عقیدت ہی کے جذبات ہیں کہ ہزاروں مسلمان آپ کا ذکر خیر سننے کے لیے "مخافل میلاد" منعقد کرتے ہیں اور والہانہ عقیدت کے ساتھ یکجا ہو کر آپ کے حالات سنتے ہیں۔ اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان پاکیزہ مخافل میں یا تو مقررین آپ کی حیات طیبہ کو بیان کرتے ہیں یا عام طور سے وہ مخصوص کتابیں پڑھی جاتی ہیں جو اسی غرض سے لکھی گئی ہیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایسی مروجہ کتابیں عموماً غیر مستند روایات سے بھری ہوتی ہیں۔ اور ان میں اخلاقی و عادات بنوی کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل حصہ سیرت النبی کا وہی ہے ضرورت ہے کہ میلاد کی محفلوں میں ایسی کتابیں پڑھی جائیں جن کے ذریعہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات سے واقف ہوں۔

آنحضرت کی پاکیزہ سیرت پر ایک نہیں لاکھوں کتابیں دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہیں۔ اردو زبان میں آنحضرت کی سیرت پر بے شمار ذخیرہ فراہم ہو چکا ہے۔ اور اب بھی مصنفین و مؤلفین کے حوصلے بلند ہیں۔

ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ کی سیرت پر کچھ لکھے تاکہ اس سعادت سے بہرہ مند ہو سکے۔

پیش نظر گذشتہ بھی ایک عقیدت مند کی گہری محبت و عقیدت کے سدا بہار پھولوں سے مرکب ہے جس میں شمیم اخلاص کی عطر بنزیوں نے اور دلکشی پیدا کر دی۔

قابل مبارکباد ہیں محترمہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر عباد الرحمن خاں صاحب جنہوں نے میلاد شمسی مرتب کر کے بڑی سعادتیں حاصل کیں آنحضرت کی مقدس سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا اور آپ کی عملی زندگی اور ہدایات کو پھیلانا ایک بڑی خوش نصیبی ہے جو توفیق الہی کی اعانت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشندہ

میلاد شمسی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ سیرت کے ان پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے جن کی زیادہ ضرورت تھی یعنی آپ کے اخلاق و عادات کو ذرا تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اور حقیقت میں آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ روشن حصہ اخلاقی تعلیمات کا ہے۔ اور دنیا کی ہدایت کے لئے اسی کی ضرورت ہے۔

میلاد کی محفلیں عام مسلمانوں کے مذہبی معتقدات کا ایک جزو بن گئی ہیں

بعض رسمی چیزوں اور غیر شرعی طریقوں کے باعث بعض اکابر علماء نے

ان مجالس کے انعقاد ہی کی مخالفت کی ہے تاہم یہ ماننا پڑے گا کہ موجودہ

دور میں مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح کی گنجائش جتنی اس راستہ سے

مکن ہے کسی اور سے نہیں بشرطیکہ ان محافل میں فضول گو میلاد خوانوں
اور غیر مستند میلاد ناموں سے پرہیز کیا جائے۔ اور ایسی مستند و معتبر کتابیں
راج کی جائیں جن سے "اسوۂ حسنہ" کے صحیح خط و خال نمایاں ہو سکیں تاکہ
اخلاقی اصلاح کا مقصد حاصل ہو۔

میلاد شمسی نے بڑی حد تک اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ حالات
و واقعات کی صحت کے ساتھ ساتھ طرز بیان دلکش اور زبان سلیس و شیریں
استعمال کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبول عام بنائے اور مؤلفہ
محترمہ کو دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔
وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

سید محمد امیر حسن نورانی معلم ادبیات عربی و فارسی
اسلامیہ کالج لکھنؤ

یکم جون ۱۹۴۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ . آمِينَ .

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سَاجِدًا يُتَبَّعُونَ فَضُلَّامِينَ اللَّهُ وَرِضْوَانًا فِي سُبُلِهِمْ فِي ذُجُوبِهِمْ
مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْقُوْرَانِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزُرْعٍ
أَخْرَجَ شَطَاةً ، فَازَرَهُ فَاسْتَفْظَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ لِيُجِيبَ الزَّرْعَ لِيُعْطِيَهُمْ
الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

حمد

ترا نام الکتب دوسرا تری شان جل جلالہ	تیری ات پات کے اے خدی تیری شان جل جلالہ
تے ہاتھ میں ہو فنا بقا تیری شان جل جلالہ	جسے چاہے مڑے بناے تو جسے چاہے زندہ اٹھائے تو
جسے چاہا جیسا بنا دیا تری شان جل جلالہ	کوئی بناو کوئی امیر ہو کوئی بیوا و فقیر ہے
غرض ایک سبک ہو دعا تری شان جل جلالہ	کوئی لیتا رہتا نام ہو کوئی کہتا ہو تو زخم ہو
بٹھے کیوں نہ بلبل خوشوار تری شان جل جلالہ	ہر ایک چین میں تو رنگ ہو بان طوطی کی تو ہی تو

محفل میلاد کی برکتیں اور فضیلتیں

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ دَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرِ
لا يُمْكِنُ الشَّاءُ كَمَا كَانَ حَقًّا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

تاجدار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے حالات سننا اور ان پر عمل کرنا ہی ہر مسلمان کا مقصد حیات ہے۔ دین و دنیا کی ساری نعمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے ہمیں سرور کائنات کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ ہم سے پہلے بزرگوں نے اسی ضرورت کا احساس کیا اور ایسے طریقے اختیار کیے جن کے ذریعہ سے عام مسلمان آنحضرت کے حالات کو باخبر ہوں۔ ان ہی طریقوں میں سے ایک محافل میلاد کا منعقد کرنا بھی ہے تاکہ ایک اچھے اجتماع میں سیرت نبوی پر ایسی تقریریں کی جائیں یا ایسی کتابیں پڑھی جائیں جن سے عام مسلمان سرور کائنات کے پاکیزہ اخلاق و عادات سے واقف ہوں اور کوشش کریں کہ وہ کبھی اسے اپنے لئے نمونہ عمل بنائیں۔

اگرچہ محافل میلاد کا مروجہ طریقہ کوئی دینی فرض نہیں ہے کہ جب تک اس طرح کی محفلیں نہ منعقد ہوں آپ کے پاکیزہ حالات کا بیان کرنا درست نہ ہو۔ نہ شریعت میں اس قسم کی محفلوں کا کوئی ذکر ہے لیکن یہ امر مسلم ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس طریقے کو اس لیے رائج کیا تھا کہ عام لوگ ہنگامی محفلوں اور اجتماعی مجلسوں میں شرکت کے لئے زیادہ رغبت کرتے ہیں۔ اس لیے آنحضرت کے حالات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے ایسی محفلیں "میلاد" کے

نام سے جاری کی گئیں۔

افسوس کہ لوگوں نے بعد میں ان محفلوں کو مذہبی رسوم میں داخل کر لیا اور ان کو طرح طرح کے دہی عقائد کا اکھاڑا بنا یا۔ اور نہ کرنے والی غیر شرعی چیزیں اس میں جاری کیں جن کی وجہ سے علماء کرام کا بڑا طبقہ ان محفلوں کے قطعی خلاف ہو گیا۔ حتیٰ کہ بعض بزرگان دین نے ممانعت کر دی کہ ایسی محفلیں منعقد ہی نہ کی جائیں کیونکہ لوگ ان متبرک محفلوں میں گانے بجانے کے غیر شرعی طریقے اختیار کرنے لگے اور بجائے تعلیمات نبوی سے فائدہ اٹھانے کے ان محفلوں کو تفریح طبع اور دیگر وہی عقائد کا مرکز بنا لیا۔

اس میں شک نہیں کہ اگر "محفل میلاد" اس لیے منعقد کی جائے کہ عام لوگ رحمت عالم کے حالات زندگی اور تعلیمات سے واقف ہوں اور مسلمانوں کو دینی برکتیں حاصل ہوں تو یقیناً یہ محفل بہت سود مند اور باعث برکت ہوتی ہے۔ آنحضرت کے مبارک حالات کو بیٹھ کر آداب مجلس کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے غور و فکر سے سنا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا ہزاروں برکتوں اور نعمتوں کا حامل ہے۔ دشمن نصیب ہیں وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ حیات طیبہ کی تبلیغ کے لیے میلاد کی محفلیں کرتے ہیں۔

خدا کے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کرنا دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین نے بھی محافل میلاد کی برکتوں کا ذکر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فیوض الحرمین میں مگر معظّمہ کی ایک محفل میلاد کا ذکر بڑے والہانہ انداز سے فرمایا ہے۔ آپ نے لکھا ہے

کہ مجھے اس مقدس محفل میں ایک عجیب نوزانی سماں نظر آیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں "میلاد" کی برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

خدا کے محبوب بندے کا ذکر حقیقت میں ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن بھائیو اور بہنو! "میلاد" کی محفل اسی وقت نفع بخش ہے جب خلوص دل کے ساتھ یہ نیت رہے کہ لوگوں کو آپ کے پاکیزہ حالات سے باخبر کیا جائے، بعض غیر شرعی رسمیں یا شور و غل یا باتیں کرتے رہنا میلاد کے سارے فائدوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ اس لیے ان سے احتیاط ہر حال میں ضروری ہے۔

محفل میلاد میں خاص طور سے گانے بجانے کا انتظام کرنا یا میلاد خوانوں سے مخصوص انداز میں بناوٹ کے ساتھ بیان کرنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ ان سے بجائے خیر و برکت کے گناہ و شر کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح پیدائش کے ذکر میں کھڑے ہو جانا برا نہیں ہے۔ لیکن اس کو ضروری سمجھنا واقعی برا ہے۔ عقیدت و محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر کھڑے ہونا اور سلام پڑھنا ویسا ہی ہے جیسے بیٹھ کر پڑھنا۔ اس لیے اس کو رسم میں داخل کرنا اور لازمی خیال کرنا مناسب نہیں۔

میلاد کی محفل میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کرنا چاہئے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سامعین باتوں سے پرہیز کریں اور پورے غور کے ساتھ ذکر پاک کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا

ہر مسلمان کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ اور باعثِ ثواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا یعنی بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزِ بختے ہیں۔ اسے ایمان لانے والوں کو بھی ان پر درود و سلام بھیجئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ

نعت شریف

احمد مرسل، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

مظہر اول، مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم

طینت جسکی سب سے مظہر بہشت جسکی سب سے مؤخر

خلقت جسکی سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم

جسکی ہر اول فوج سلیمان جسکے منادی موسیٰ عمران

جسکے نبی عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم

بچھڑے ہوئے گلے کو بلا یا نسل و وطن کا فرق مٹایا

رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم

وہم کی ہرز بخیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا

شرک کی محفل کردی برہم صلی اللہ علیہ وسلم

خلق خدا کا راہی آخر، دین ہدے کا داعی آخر

جس کی دعوت اسلیمت صلی اللہ علیہ وسلم

آئینہ الطواف الہی، رحمت جسکی لامتناہی
جسکی ہدایت اَرْحَمَ رَحْمَتِہُمْ صلی اللہ علیہ وسلم

راہ میں کانٹے جس نے پھائے، گالی دی پتھر برسائے
اُس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم

فقر و غنا دونوں کا سلطان روح و جسد دونوں کا درمان
دین کا اور دنیا کا سنگم صلی اللہ علیہ وسلم

عمر بسر کی نان جویں پر، سگہ چلا یا حیرت و زین پر
فقر میں استغنا کا یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے
اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم

نوری تن کتل میں چھپائے، بادل میں بجلی لہرائے
نور کا مینہ برسائے زم جہم صلی اللہ علیہ وسلم

عرب کا مختصر حال

جس ملک میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے

اُس کا نام عرب ہے قدیمی تاریخی تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ "عرب"

کے معنی عربی زبان میں فصیح اور ٹیٹھی زبان کے ہیں چونکہ عرب کے لوگوں کو

اپنی زبان اور فصاحت و بلاغت پر غرور تھا وہ تمام دنیا کی زبانوں کو اپنے

مقابلہ میں جنس حقیر سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے کو "عرب" اور دنیا

کی زبانوں کو اپنے مقابلہ میں جلسِ حقیر سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے کو "عرب" اور دنیا کی اور تمام قوموں کو "عجم" کا خطاب دیا۔ عجم کے معنی گونگے اور آن پڑھ کے ہیں۔

ظہورِ اسلام سے پہلے عرب کے مختلف حصوں کی حالت تہذیب و تمدن تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بالکل لپیٹ تھی۔ مگر تاریخِ اسلام ہی سے نہیں بلکہ غیر مسلم مورخین کی تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصوں نے بہت ترقی کر لی تھی مثلاً یمن تمدن میں یہاں تک آگے بڑھا ہوا تھا کہ یہاں کے بادشاہوں نے ایک زمانہ میں تمام ایران کو فتح کر لیا تھا کئی سو سال قبل مسیح کے آثارِ قدیمہ کی یورپین محققین نے تحقیقات کر کے دریافت کیا ہے کہ یمن کا قدیم تمدن انتہا درجہ تک پہنچا ہوا تھا علمائے یورپ نے یمن کے پرانے کتبوں کو پڑھ کر ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجہ کا تمدن موجود تھا اسکے علاوہ پرانے زمانہ کے عربی اشعار میں بھی وہاں کے ترقی یافتہ تمدن کا ذکر پایا جاتا ہے۔ علامہ ہمدانی نے اپنی کتاب "اکلیل" میں یمن کے مشہور محلات اور ایسے حیرت انگیز قلعوں کا تذکرہ کیا ہے جو صناعتی کا بہترین نمونہ تھے علم و فن مثلاً نجوم، شہسواری، جنگ آزمائی وغیرہ وغیرہ میں اس قوم کا مقابلہ دنیا کی اور قومیں نہ کر سکتی تھیں۔ زبانِ آوری اور شاعری میں عرب والوں کو جو کمال حاصل تھا اس کی بنا پر تو انہوں نے اپنے ملک کو عرب کا نام ہی دیدیا تھا۔ یہ سب کچھ تھا لیکن صحیح اخلاق اور کمال انسانیت کے لیے جن اسباب کی ضرورت تھی سرزمین

عرب ان سے خالی تھی۔ نہ کوئی قانون معاشرت تھا نہ کہیں تعلیم اخلاق کا
 نشان تھا ظالم مظلوم پر ظلم کرتا تھا۔ بہادر کمزور کو دباتا تھا۔ نفرت انگیز
 توہمات و بیہودہ اعتقادات کا دور دورہ تھا۔ بربریت، درندگی اور کفر و
 شرک کا دریا ہر طرف موجزن نظر آتا تھا۔ جس کے تھپیڑوں سے حیات
 انسانی میں تلاطم پاتا تھا۔ مولانا حالی نے اس وقت کی حالت یوں بیان کی ہے۔
 عرب جبکا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سدا لگ اک جزیرہ نما تھا
 زمانہ سے پیوند جس کا جدا تھا نہ کشورستاں تھا نہ کشور کشتا تھا

تمدن کا ان پر پڑا تھا نہ سایہ

ترقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا

چلن ان کے چننے تھے سب وحشیانہ ہر اک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ
 فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا زمانہ

وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے

درندے ہوں جنگل میں بیباک جیسے

جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی شراب انکی گھٹی میں گویا پڑی تھی
 تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی غرض ہر طرح انکی حالت بُری تھی

بہت اس طرح انکو گزری تھیں صدیاں

کہ چھائی ہوئی بتکدوں پر ہیں بدیاں

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا
 ازل میں مشیت نے تھا جسکو تا کا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا

وہ تیرتھ تھا اک بت پرستوں کا گویا

جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جو یا (دعائی)

گو اس ہمہ گیر تاریکی میں چند صاحب بصیرت ایسے پیدا ہوئے جن کے دل میں اپنی قوم کے اندھے عقائد یہودہ رسم و رواج کی بُرائی کا خیال آیا۔ لیکن یہ چند بزرگ بھی آنحضرت کی بعثت سے کچھ پہلے ہی تھے اور غالباً انھیں عنقریب چمکنے والے آفتاب ہی کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ "ورقہ بن نوفل" انھیں میں سے تھے جنہوں نے آنحضرت صلعم پر وحی اُترنے کا واقعہ حضرت خدیجہؓ سے سن کر تصدیق کی تھی کہ آج سے آنحضرتؐ نبی ہوئے۔

ان بزرگوں میں سے ایک صاحب زید بن عمرو بن نفیل، بھی تھے جو حق کی تلاش میں شام گئے وہاں یہودی، عیسائی، اور پارسیوں سے ملے لیکن کسی سے تسلی نہ ہوئی۔ واپس آ کر کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور جب اُس زمانے کے اعتقاد کے موافق لوگ کعبہ میں بتوں پر چڑھاوے چڑھانے آتے تو ان سے کہتے تھے کہ "اے قریش کے لوگو! تم میں سے کوئی سوائے میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے" لیکن ایک کمزور انسان کی آواز اُس غول بیابانی میں کون سنتا! اور سنتا بھی کیونکر۔ یہ رتبہ عظیم تو ایک دوسری ہی آواز کو ملنا تھا۔ نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اُس عظیم الشان رہنما کا انتظار تھا جس کی آواز نے گونج کر ان بھٹکے ہوؤں کو راستہ دکھایا اور اپنی تعلیم سے ایسی وحشی و غیر مہذب قوم کی اصلاح کی جس پر قرونوں سے جمالت جھالی ہوئی تھی۔ یہ لوگ خدا کی وحدانیت کو سمجھنے سے

بالکل قاصر تھے بعضوں کا خیال تھا جو کچھ ہے زمانہ ہے یا قانون قدرت۔
خدا کوئی چیز نہیں انہیں کی نسبت قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں
جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا
ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ کچھ پیغمبر کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ ”یہ کیسا رسول ہے
کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔“ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی انسان
خدا کی باتیں بتائے تو وہ خدا ہی کا روپ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا ذکر بھی
قرآن شریف میں آیا ہے لیکن عام لوگوں کا مذہب بت پرستی تھا۔ یہ ان معبودوں
کو خدا کی طاقت سمجھ کر انہیں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر شہر و ہر قبیلہ کا بت علیحدہ
تھا۔ ایک قبیلہ اپنے بت کو دوسرے کے بت سے زیادہ طاقتور اور بڑا مشکل کشا
سمجھتا تھا۔ مکہ والے بت کو سب سے بڑا بت مانتے تھے۔ یہ کعبہ کی چھت پر
نصب تھا۔ اور قریش لڑائیوں میں اسی کی جے پکارتے تھے۔ لائٹ شہر طائف
میں رکھا ہوا تھا جو وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا حاجت روا تھا۔ اور منات
مدینہ منورہ میں نصب تھا۔ مدینے والوں کا عقیدہ تھا کہ منات ہی ان کو کھانا
دیتا ہے اور جب قحط پڑتا ہے تو یہی پانی برساتا ہے لیکن اسکے ساتھ ساتھ کبھی
کبھی ان لوگوں کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا تھا کہ اصلی خدا اور چیز ہے
اور یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس
بن دیکھے خدا کو وہ ”اللہ“ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں انہیں
لوگوں کی نسبت لکھا ہے کہ ”اور بیشک اگر ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان اور
زمین کس نے پیدا کیے اور چاند اور سورج کس نے تابعدار بنا رکھا ہے تو

بول اٹھیں گے کہ "اللہ نے" پھر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو دل سے پکارتے ہیں۔ پھر جب ان کا خدا ان کو خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔

جاہلانہ عقائد اور شرک کے اثر سے ان لوگوں میں وحشیانہ

رسم و رواج مراسم رواج پائے گئے تھے۔ ان کے خیال ہی سے دل کا نپ

جاتا ہے اس وحشی قوم کے لوگ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا، بیٹیوں

اور بیٹیوں کا دان کرنا، بہن و بیٹی کے ساتھ شادی کر لینا عورتوں کا پیٹ

چاک کرنا اور انھیں جلا دینا۔ بتوں پر آدمیوں کی بھینٹ چڑھانا عام طور پر

اچھے کام سمجھتے تھے۔ قمار بازی، شراب خواری ان کی تہذیب میں داخل

تھے۔ شراب عبادت خانوں میں تبرک کے طور پر بڑی جاتی تھی۔ بے حیائی کی

کوئی حد نہ تھی اور بے شرمی کو کوئی بُرا فعل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بہالت و بربریت

میں صرف عورتوں ہی کی یہ حالت نہ تھی بلکہ دنیا کی تمام قومیں ان امراض کا شکار

تھیں۔

پیغمبر اسلام سے پہلے دوسرے مصلحین کی تعلیم و تلقین نے نوع انسانی

پر مجموعی حیثیت سے کتنا اثر کیا۔ اور کفر و شرک کے بڑے ہوئے دریا کے

روکنے میں ان برگزیدہ ہستیوں کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوئیں۔

اس کا جواب تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہے لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ عالمگیر

کامیابی کا سہرا سرور عالم کے سر مبارک سے باندھا جائے اور تعلیم و باقی کی

سنگ میل خدا کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ صَلَّیْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِیْ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

ولادت باسعادت

یوں تو فرش زمین پر ہدایت و حکمت والے کتنے ہی درخشاں ستارے
آسمان سے اترے اور اپنی روشنی سے گمراہ دنیا کی تاریکی میں اُجالا کر کے
روپوش ہو گئے لیکن آج کا روز وہ روز سعید ہے جس کی آمد کے انتظار میں دہر
کس ہزاروں سال کروٹیں بدلا گیا۔ آج کی صبح وہ صبح جان نواز ہے جس کی
پو پھٹتے ہی اُجالے کی وہ کرن نظر آئی جس کے شوق میں تمام ستارہ ہائے
فلک چشم براہ تھے کیونکہ اسی نور کے پرتو سے حقیقت کی تکمیل ہونے والی
تھی۔ یہ وہ ساعت نیک ہے جس کی خبر روز اول میں دی گئی تھی۔ اور تمام قدسیاں
عالم نے اسی مشرودہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آج ہی کے روز نور ابراہیمی اب بنی
پوری شان کے ساتھ چلے گا۔ اور اسی صبح صادق کو آفتاب رسالت طلوع ہو کر
اپنے پرتو قدس سے زمانہ مہجر کی روشنیوں کو ماند کر دے گا

یکایک ہوئی غیرتِ حق کو حرکت بڑھا جانب بوقبیس ابر رحمت
ادا خاک بطحائے کی وہ ودیعت چلے آتے تھے جسکی دینے شہادت

ہوئی پہلوزے آمنہ سے ہویدا

دعائے خلیفہ و نوید مسیحا

ارباب سیر نے لکھا ہے کہ آج کی رات ایوان کسری کے چودہ کنگرے
گر گئے۔ فارس کا آتشکدہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ کفر و شرک کی تاریکیاں

جبر و تشدد کی آندھیاں، معصیت و گمراہی کی فراوانی، جہالت و بت پرستی
 کی ارزانی، مجوسیت و نصرانیت کی چیرہ دستیوں، ظالم و جاہل فرماؤں کے
 ظلم و زبردستیاں نیست و نابود ہوتے لگیں۔ توحید کا غلفہ بلند ہوا۔ نعرہ تکبیر
 گونج اٹھا۔ علم و اخلاق کا سکہ پرامعلم جلوہ نما ہوا۔ ہدایت کے چشمے جاری ہو گئے
 ابر رحمت جوش میں آیا۔ کرم کی گھٹائیں جھوم جھوم کراٹھیں اور زور شور سے
 برسیں۔ اور رگستان عرب کی خشک زمین سیراب ہوئی۔ نہ صرف عرب بلکہ
 سارے عالم کو ابر رحمت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دنیا کا گوشہ گوشہ
 سرسبز و شاداب ہو گیا۔ خزاں دیدہ گلستاؤں کو نئی بہار کا پیام ملا۔ یہ سب کچھ
 اسی دو شنبہ کے مبارک دن اور ریح الاول کی بارہویں بابرکت تاریخ میں ہوا۔
 صد ہاتھ نے دی لے ساکنان خطہ ہستی ہوئی جاتی ہو پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی
 مبارک باد ہے ان کیلئے جو ظلم سہتے ہیں کہیں جنکو اماں ملتی نہیں برباد رہتے ہیں
 مبارک باد بیوؤں کی حسرت زانگا ہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو
 ضعیفوں، بکیوں، آفت بھیسوں کو مبارک باد یتیموں کو غریبوں کو مبارک ہو
 مبارک کریں کھا کھا کے پیم گرنے والوں کو مبارک بنتِ غربت میں بھٹکنے پھر والوں کو
 خیر جا کر سادوش جنت کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرات سب ہوگی خود ہرستوں کو
 معین وقت آیا، زور باطل گھٹ گیا آخر انڈھیراٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر
 مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا نجات دہی کی شکل میں اسلام آ پہنچا
 مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے گئے جناب رحمتہ اللعالمین تشریف لے گئے
 بصد نذر کیانی بغایت شان زیبائی میں بنکر امانت آئمہ کی گود میں آئی

آج کی "صبح سعادت" شب اول کے خواب کی تعبیر لائی ہے۔ یعنی یتیم
 عبد اللہ جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، شہنشاہ کوئین، ہادی دو جہاں، عالم باطن
 سے عالم ظاہر میں تشریف لاتے ہیں حضرت آمنہ (حنور کی والدہ) حجرہ میں
 بیٹھی ہیں۔ ایک ننھا سا یتیم بچہ چھاتی سے لگا ہے۔ سینہ ماتا سے بھرا ہے
 اور وہ ایک ایسی رات کے تصور میں ہیں جو آج سے چند مہینہ پہلے ہزاروں
 خوشیاں اور لاکھوں مسرتیں لے کر آئی تھی۔ ان کے شوہر مکہ کے حسین اور
 نیک سیرت عبد اللہ ان کے سامنے تھے وہ خود بھی ایک خوبصورت شخصہ
 تھیں جو نبی زہرہ نے اسی رات قریش کو دیا تھا۔ آج وہ بیوہ ہیں۔ دنیا
 کی کوئی مسرت انھیں وہ خوشی نہیں دے سکتی جو وہ کھو چکی ہیں لیکن ایک
 "در یتیم" ان کے شوہر کی یادگار ان کی گود میں ہے۔

آج مکہ کی وادیاں آفتاب نبوت کی نورانی شعاعوں سے جگمگا رہی
 ہیں شہر مکہ کے اندر خانہ خدا کے پڑوس میں ایک شاندار مکان میں کسی بڑی
 تقریب کا اہتمام نظر آتا ہے۔ گھر کے بڑے احاطہ میں آگ جل رہی ہے
 جس کے اونچے اونچے شعلے ہوا میں بل کھا رہے ہیں۔ نعروں اور قہقہوں سے
 سارا مکان گونج رہا ہے۔ عزلی مہانوں کے قافلے دور دور سے اس تقریب
 میں شریک ہونے آئے ہیں کیونکہ ان تیز مزاج عربوں کے یہاں ایسی
 محبت کی تقریبیں کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں شہر کے مہمان پر تکلف لباس پہنے
 ایک ایک دو دو کر کے آرہے ہیں۔ اور آگ کے گرد جمع ہوتے جا رہے
 ہیں۔ کھانے کے بڑے بڑے طشت مہانوں کے سامنے چنے جا رہے ہیں۔

مہانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں قریش کے معزز سردار بھی ہیں اور بڑے بڑے تاجر بھی۔ قبیلہ کے شیخ بھی ہیں اور خانہ بدوش بدو بھی بالکمال شاعر اور فصیح و بلیغ واعظ بھی موجود ہیں۔ مہانوں کا یہ اجتماع مکہ کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ میزبان قریش کے سردار کعبہ کے متولی ہمارے رسول کے دادا "عبد المطلب" ہیں۔ آج عبد المطلب خوشی سے پھولے نہیں سماتے سنتے بولتے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ مہانوں کی خاطر تواضع میں مشغول ہیں گفتگو کی فصاحت صورت و شکل کی موزونیت دیکھ کر یہ پہچان لینا مشکل نہیں کہ وہ اس گروہ میں سب سے زیادہ ممتاز شخصیت رکھتے ہیں۔ اتنے میں ایک حبشی غلام ننھے سے بچے کو لیے مہانوں کے سامنے آتا ہے۔ مہان بڑے شوق کے ساتھ بچے کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں "کیا نام رکھا؟" عبد المطلب بچے کے ننھے چہرہ کو پیار سے چھو کر فخر سے جواب دیتے ہیں میں نے اسکا نام "محمد" رکھا ہے۔

عبد المطلب کا سلسلہ نسب ہاشم عبد منات سے لے کر حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اس خاندان کا نام اپنی خصوصیات کے لحاظ سے مشہور ہے اس لیے بچے کا نام منکر مہانوں کو تعجب ہوتا ہے۔ ایک مہمان آتا ہے کہ "محمد" کے بجائے آپ نے اپنے خاندان کا کوئی اچھا سا نام کیوں نہیں تجویز فرمایا عبد المطلب کے اٹھارہ اولادیں تھیں لیکن ان کو سب سے زیادہ محبت "عبد اللہ" سے تھی اسی محبت کے باعث آج وہ اس قدر خوش ہیں۔ محمد صلعم کے ننھے سے چہرے میں انھیں اپنے محبوب بیٹے

عبداللہ کی شبیہ نظر آتی ہے اور انھیں یقین ہے کہ ان کا یہ پوتا ایک روز
 کعبہ کا متولی، قریش کا سردار اور ان کا جانشین ہوگا۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلٰی
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

بعثت حضرت خاتم النبیین صلعم

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
 مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پر لے کا غم کھانے والا
 فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مادی

یتیموں کا والی، غلاموں کا مولیٰ
 خطا کار سے درگزر کرنے والا بداندیشی کے دل میں گھر کرنے والا
 مفاسد کا زبردست کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا

اُتر کر حرا سے سوائے قوم آیا
 ادراک نسخہ کیمیا ساتھ لا یا
 میں خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھا یا
 عرب جس پہ قرون کو تھا جہل چھایا پلٹ ہی بسا ک آن میں اس کی کا یا

رہا ڈرنہ بیڑے کو موجِ بلا کا
 ادھر سے ادھر پھر گیا رُخ ہوا کا

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی
 نئی اک لگن دل میں سب کے لگا دی اک آواز میں سوتی بستی جگا دی

پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے
کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے

ہون پھر شریعت کا ان کو پڑھایا
زمانہ کے بگڑے ہوؤں کو بتایا

حقیقت کا گران کو اک اک بتایا
بہت دن کے سوتے ہوؤں کو جگایا
کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر
وہ دکھلا دیئے ایک پر وہ اٹھا کر

نہ واقف تھے انسان سزا و جزا سے
نہ آگاہ تھے بد و نیت سے
لگائی تھی ایک اک نے لوہا سوا سے
بڑے تھے بہت دور بندے خدا سے

یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا

یہ راعی نے لٹکار کر جیب پکارا

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق
زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اسی کے ہیں فرمان طاعت کے لائق
اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ

جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

حالی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے قیدار

کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی۔ عدنان قیدار کی اولاد میں تھے

نسب

اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کے خاندان میں ہیں حدیث

شریف میں لکھا ہے کہ خاندان عدنان سے حضرت اسماعیل تک جا لینسے

پشتوں کا فاصلہ ہے علامہ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان سے
 عرب کے بعض نسب دانوں نے بیان کیا کہ انھوں نے عرب میں ایسے
 علماء دیکھے جو چالیس پشتوں کے نام جانتے تھے اور یا پیغمبر کے نقشی نے
 عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا اس شجرہ میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل
 تک چالیس نام ہیں آنحضرت کا خاندان اگرچہ شروع ہی سے ممتاز و معزز
 چلا آتا تھا لیکن جس شخص سے اس خاندان کو قریش کا لقب حاصل ہوا وہ نصر
 بن کنانہ تھے ان کی اولاد میں قصی بن کلاب نے بہت عزت و اقتدار حاصل
 کیا کیونکہ انھیں کعبہ کے متولی کا منصب مل گیا تھا۔ اور اس حیثیت سے
 انھوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ اس وقت تک حج کے دنوں میں
 زائرین کے ٹھہرنے، کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ قصی نے
 تمام قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ سیکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیاد
 کو آتے ہیں ان کی میزبانی کرنا قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ کعبہ والوں کی امداد
 سے وہ ہر سال حرم کے زائرین کو کھانا کھلاتے تھے۔ حوضوں میں پانی بھر کر
 پانی پلاتے تھے قصی کے چھ بیٹوں میں سے دوسرے کا نام عبدمناف تھا۔
 قصی کے مرنے کے بعد قریش کی ریاست عبدمناف کو مل گئی۔ اور انھیں کے
 خاندان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبدمناف
 کے ایک بیٹے ہاشم تھے اور ان کے بیٹے عبدالمطلب ہائے رسول کے دادا
 تھے اہل قریش میں زمانہ قدیم کی یہ رسم ابھی تک جاری تھی کہ کسی آدمی کے
 پورا ہونے کے لیے اولاد نرینہ کو بھینٹ چڑھانے کی سنت مانا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے بھی سنت مانی کہ دس بیٹوں کو اپنے سامنے
 جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ قدرت خدا
 سے ان کی یہ آرزو پوری ہوئی تو دسوں بیٹوں کو لیکر حرم میں گئے اور بجا ری
 سے کہا کہ دسوں پر قرعہ ڈالو جس کے نام پر نکلے گا میں اسی کی قربانی کروں گا
 اتفاق دیکھئے کہ قرعہ عبد اللہ کے نام پر آیا۔ عبدالمطلب عبد اللہ کو لیکر قربانگاہ
 کی طرف چلتے ہیں عبد اللہ کی بہنیں جو ساتھ تھیں اس جانکاہ نظارہ کی تاب
 نہ لا کر رونے لگتی ہیں اور بھائی کی جان بخشی کے لیے رورہ کر کہتی ہیں "عبد اللہ
 کے بدلے دس اونٹ قربان کر دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے" عبدالمطلب
 بجا ری سے کہتے ہیں کہ عبد اللہ اور دس اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ غالباً انہیں
 یہ خیال آیا ہو گا کہ اگر عبد اللہ ہی کو قربان ہونا ہے تو قرعہ پھر انہیں کے نام
 پر نکلے گا۔ ورنہ نہیں۔ اتفاق یہ کہ قرعہ پھر عبد اللہ کے نام پر آتا ہے۔
 عبدالمطلب نے محبت پدری سے مغلوب ہو کر اب بیس اونٹوں کی بازی لگائی
 اور بڑھاتے بڑھاتے تلو اونٹوں تک ذبت پہنچ گئی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا
 اب عبدالمطلب سوا اونٹوں کی قربانی کر دیتے ہیں اور اس طرح عبد اللہ کی جان
 بچ جاتی ہے کچھ دن بعد عبدالمطلب کو عبد اللہ کی شادی کی فکر ہوتی ہے قبیلہ
 زہرہ میں وہب زہری نام کے ایک بزرگ تھے۔ ان کی بیٹی تھیں جن کا
 نام "آمنہ" تھا۔ قریش کے خاندانوں میں یہ سب زیادہ متاز تھیں۔ اس وقت
 اپنے چچا وہب کے یہاں رہتی تھیں عبدالمطلب نے حضرت آمنہ کے چچا وہب
 کو عبد اللہ کی شادی کا پیغام آمنہ سے دیا۔ اور حضرت عبد اللہ کا عقد آمنہ کے

ساتھ پڑھا یا گیا۔ عبداللہ کی عمر اس وقت سترہ برس کی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ تین دن حضرت آمنہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ سفر سے واپس آتے ہوئے مدینہ میں بیمار ہو کر ہیں انتقال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے لہذا ان کی موت سے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ تو اندازہ سے باہر ہے کہ اس صدمہ سے حضرت آمنہ کا کیا حال ہوا ہو گا۔ جنہوں نے اپنے شوہر کی صورت صرف تین دن دیکھی اور اس کے بعد وہ جمیل چہرہ جس کی پیشانی میں نور محمدی کی جھلک نمایاں تھی ہمیشہ کے لئے انکی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔

دورِ آوّل

آنحضرت کے ابتدائی حالات | آنحضرت نے تین روزا بنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد ثویبہ نے دودھ پلایا۔ ثویبہ آنحضرت کے چچا ابو طالب کی کنیز تھیں۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شہر کے رئیس و شریف گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے دایوں کو دے دیے جاتے تھے۔ یہ دایاں بدوی عورتیں ہوتی تھیں جو دور دور کے قصبوں اور دیہاتوں سے بچے لینے کی غرض سے شہروں کو آیا کرتی تھیں۔ روسا عرب اپنے دودھ پیتے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور یہ ان کو لے کر اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں اور وہیں ان کی پرورش کرتی تھیں عربی شرفاء کے بچے بدوی قبائل میں پرورش پا کر بلند ہمت و بہادر اور خوش

بیان خطیب بن جاتے تھے اس طرح ان کی قوم و نسل کی تمام خصوصیتیں
باقی رہتی تھیں۔ اس رواج کو عرب کے شریفوں نے مدت تک قائم رکھا۔
اسلام کے بعد بھی عرصہ تک جاری رہا لیکن جب شریعت اسلام نے نسلی امتیاز کو
مٹا دیا تو یہ رسم بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ ہوازن کی
ایک بدویہ خاتون حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ بچوں کی تلاش
میں مکہ آئیں اتفاق سے حلیمہ کی ساتھ والی سب عورتوں کو امیروں کے بچے مل گئے
لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ادھر حضرت آمنہ کو ان کے یتیم بچہ کے لینے دیا یہ نہ
ہی حلیمہ سعدیہ کی تمام ہمراہی عورتیں امیروں اور سرداروں کے بچے لے کر اپنے
گھروں کو واپس ہو گئیں اور حلیمہ جو اپنی ہم سفروں میں سب سے زیادہ غریب
و مصیبت زدہ تھیں باہوس رہ گئیں لیکن نثار اہی یہ نہ تھا کہ حلیمہ اور دایوں کی
طرح اپنی خدمت کے صلہ میں دنیا کا انعام پائیں۔ ان کی قسمت میں تو خدا نے
آخرت کا ہمیشہ باقی رہنے والا انعام رکھا تھا۔ کیونکہ ان کی گود میں اللہ کا حبیب
کھیلنے والا تھا جب حضرت آمنہ آنحضرت کی والدہ نے حلیمہ کو آپ کی پرورش
کے لیے مقرر کرنا چاہا تو پہلے حلیمہ نے خیال کیا کہ یتیم بچہ کو لے کر کیا کروں گی
لیکن پھر انہوں نے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کر لی! الغرض آپ کو
حلیمہ سعدیہ کی سپردگی میں دیدیا گیا۔ باپ کی شفقت تو آپ نے دیکھی ہی نہ تھی
ملک کے رواج نے ان کی آغوش سے بھی علیحدہ کر دیا۔ حلیمہ آپ کو لے کر اپنے
گاؤں چلی گئیں اور اب آپ کی پرورش اسی دودھ سے ہونے لگی جس سے

عرب کے آزاد بہادر فرزند پتے تھے۔ دو سال کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور
 آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کرنا چاہا لیکن اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی
 تھی اس لیے آپ کی والدہ نے کہا کہ واپس لے جاؤ۔ حلیمہ دائی دوبارہ آپ کو اپنے
 گھر لے آئیں حلیمہ سعدیہ کے یہاں آنحضرت کے دوران قیام میں بہت کچھ خیر و
 برکت کی علامتیں ظاہر ہوئیں حلیمہ اکثر ان غیر معمولی باتوں پر تعجب کرتی تھیں اور
 وہ آپ کو اپنی بستی کے تمام بچوں میں ممتاز جانتی تھیں۔ لیکن آپ کی پرورش بالکل
 گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح ہوئی، کھانے پینے، لباس میں گاؤں کے اور بچوں
 میں اور آپ میں کوئی ظاہری فرق نہ تھا آپ اپنے دودھ شریک بھائیوں کے
 ساتھ کھیلتے اور اکثر بکریوں کے ساتھ چراگاہوں کو جاتے تھے۔ حلیمہ آپ کو اپنے
 بچوں سے زیادہ چاہتیں آپ کو بھی ان سے بے انتہا محبت تھی۔ روایت ہے
 کہ عہد نبوی میں جب حلیمہ سعدیہ جو بہت بڑھی ہو چکی تھیں آپ کے پاس آئیں تو
 آپ "میری ماں، میری ماں" کہہ کر ان سے لپٹ گئے تھے اور جب آپ کی عمر
 چھ سال کی تھی تو نبی بی حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر کے گئیں تو وہ
 زار و قطار روتی گئیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و
 آلہ و اصحابہ اجمعین ؎

مدینہ کا سفر | آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال تک حلیمہ
 سعدیہ کے یہاں پرورش پا کر جب اپنی والدہ کے
 پاس مکہ میں آئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر آپ کے والد
 حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لئے مدینہ گئیں۔ اس سفر سے واپس آتے

ہوئے مقام ابوا میں اُن کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ یہیں دفن ہوئیں۔ اُم
امین حضرت آمنہ کی کنیز جو اس سفر میں ساتھ تھیں آپ کو لیکر مکہ آئیں اللہ کو
یہ بھی منظور نہ تھا کہ باپ کے بعد ماں کا سایہ آپ کے سر پر رہتا۔ چنانچہ اب تک
آپ یتیم تھے اب یسیر بھی ہو گئے۔

جد امجد کی سرپرستی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب

نے آپ کو اپنی تولیت میں لیا چونکہ عبد المطلب
آنحضرت کے والد حضرت عبد اللہ کو اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ چاہتے
تھے اور آنحضرت انھیں کے یتیم بچہ تھے عبد المطلب کو آپ سے بید محبت
تھی جبکہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا عبد المطلب آپ کو اپنے پاس سے
علحدہ نہیں کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم جنی کے دل میں خدا نے محبت و ہمدردی
کا احساس عام فطرت انسانی سے بہت بلند عطا کیا تھا بچپن ہی سے اس سے
متاثر تھے لہذا آپ اپنے دادا کو پیار سے دیکھتے رہتے اور فرط محبت سوائے انکے
ہاتھوں پر بوسہ دیتے لیکن صلحت خدایہ بھی نہ تھی کہ ماں باپ سے زیادہ چاہنے
والے دادا کی کفالت دیر تک نصیب ہوتی۔ آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوتی ہے
تو آپ کے دادا بھی بیاسی سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں

مشرک چچا کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے مرتے وقت اپنے

ایک بیٹے ابو طالب کو آنحضرت صلعم کی
پرورش کا کام سپرد کیا۔ ابو طالب نے اس فرس کو جس ذمہ داری و وفاداری کے
ساتھ انجام دیا اس کی تصدیق تمام صحیح حدیثوں سے ہوتی ہے۔ وہ بھی آنحضرت

صلح سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنی اولاد کی پروا نہ کرتے۔ کھاتے تو اپنے ساتھ کھلاتے سوتے تو ساتھ لے کر سفر پر جاتے تو ہمراہ لے جاتے۔ ابوطالب اپنی قوم کے لوگوں کی طرح تجارت کرتے تھے اور اکثر تجارتی سفر پر جاتے تھے۔ آنحضرت کے ان کی سپردگی میں آنے کے بعد ابوطالب کو شام کے سفر پر جانا پڑا۔ اس وقت آنحضرت کی عمر بارہ سال تھی ابوطالب آپ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ بحیرا راہب کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔

حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بحیرا ملک شام کا رہنے والا ایک راہب تھا یعنی دنیا کو ترک

بحیرا راہب کا واقعہ

کر کے پہاڑ کی گھاٹی میں خانقاہ بنا کر رہتا تھا۔ ابوطالب کا قافلہ جب بصرہ کی پہاڑی سے اتر رہا تھا تو بحیرا نے دور سے دیکھا کہ قافلہ میں ایک دس بارہ سال کا لڑکا نچر پر سوار قافلہ کے درمیان پہاڑ سے اتر رہا ہے اور وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے درختوں کی ڈالیاں جھک کر اس پر سایہ کرتی ہیں۔ بحیرا نے اپنے چیلوں سے کہا "دیکھو! اس آنے والے قافلہ میں جو لڑکا ہے یہ پیغمبر ہو گا۔ ہماری آسمانی کتابوں میں ایک اور آنے والے آخری رسول کی بشارت دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے" الغرض اسی قسم کے گونا گوں واقعات کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ آنحضرت صلح کی عقل و دانش میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اپنی عمر سے زیادہ عقل کی باتیں کرتے تھے اور بڑی خوبی کے ساتھ ہر کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَحْمَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ

حرب فجار | اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ زیادہ تر ذاتی غرض سے ہوا کرتی تھیں۔ گھروں کے اندر، بازاروں

میں گلی کوچوں میں، شراب و جوئے کی محفلوں میں ذرا سا جھگڑا ہو گیا اور تلواریں نکل آئیں کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر کہیں پانی پینے پلانے پر تکرار ہو گئی اور بڑھتے بڑھتے تمام قبیلوں کی لڑائی بن گئی ان لڑائیوں میں بڑے بڑے سردار و بہادر مارے جاتے باپ کا بدلہ بیٹے سے اور دادا کا انتقام پوتے سے لیا جاتا تھا اور اس طرح سیکڑوں بیگناہوں کا خون بہہ جاتا اور خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے۔ مولانا حالی نے اس دور کا کتنا اچھا نقشہ پیش کیا ہے۔

مستند

چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر اک لوٹا اور مار میں تھا یگانہ
فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا ساز یا نہ

وہ تھے قتل و غارت میں جالاک ایسے

درندے ہوں جنگل میں بیابک جیسے

نہ ملتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھے تھے سلجھتے نہ تھے جب جھگڑا بیٹھے تھے

جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھے تھے تو صد ہا قبیلے بگڑ بیٹھے تھے

بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارا

تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا

وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی
قبیلوں کی گردی تھی جس نے صفائی تھی اک آگ ہر سو عرب میں لگائی

نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ

کرشمہ اک ان کی جہالت کا تھا وہ

کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا

لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا

یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں

یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں

جب آنحضرت صلعم سن تیز کو پہنچے تو اسی قسم کی ایک خوفناک جنگ خاص

ان کے قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس میں چھڑ گئی۔ اس معرکہ میں

قریش کے تمام خاندان شریک تھے چونکہ آنحضرت کے چچا ابوطالب قریش کے

سردار تھے خاندان کے تنگ و نام کا معاملہ تھا اس لڑائی میں سالار جنگ وہی

ٹھہرائے گئے۔ لہذا ان کے بیٹے اور تمام بھتیجے بھانجوں کے لیے شریک جنگ

ہونا ضروری ہوا۔ اس فرض کی ادائیگی میں آنحضرت صلعم کو بھی اپنے خاندان کے

اور نوجوانوں کی صف میں کھڑا کیا گیا لیکن آپ نے اپنے ہاتھ میں نہ کوئی

ہتھیار لیا اور نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ یہ دنیا داری کا جھگڑا تھا اور پیغمبروں

کو سوائے جہاد کے جو خالص خدا کی راہ میں اور اس کے سچے دین کی حفاظت

کرنے کے لیے ہوا کسی لڑائی میں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔

دورِ دوم

تجارت کا مشغلہ

عرب کے لوگ عام طور پر تجارت پیشہ تھے اور آنحضرتؐ کا خاندان مکہ کا رئیس ہونے کے سبب سے

تجارت میں سب سے بڑھا ہوا تھا۔ لیکن عرب والوں کی بد اعمالیاں جو ان کی فطرتِ ثانیہ بن گئی تھیں۔ یہاں بھی صاف نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپس کے لین دین اور تمام تجارتی معاملوں میں بے ایمانی سفاکی، وعدہ خلافی ایک دوسرے کے مال کو غصب کر لینا دن رات کا مشغلہ تھا۔ ایک تاجر کا سب سے بڑا

حسن اخلاق وعدہ کو پورا کرنا اور اپنے اوپر دوسروں کا اعتبار پیدا کرنا ہے۔ اس کی مثال اُس قوم میں ملنا دشوار تھی۔ بے اعتباری کا یہ حال تھا کہ ایک خوشہ کھجور کے لئے کوئی کسی پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ اسی زمانہ میں اسی قوم کا ایک تاجر

جو ابھی کم عمر لیکن اپنی نظیر آپ تھا ایماندار سی، راستباز سی، سچائی اور پاکیزہ اخلاقی میں یہاں تک مشہور ہوا کہ آپ کا لقب امین پڑ گیا۔ وہ لوگ جو وعدہ خلافی و خیانت میں لیتا تھے اور باپ بیٹے، بھائی بھائی ایک دوسرے پر

بھروسہ نہ کرتے تھے، اپنا مال و اسباب بطور امانت آنحضرتؐ کے پاس رکھ دیتے اور آپ کو اپنے کاروبار میں شریک بنانے کی کوشش کرتے ابی حماد ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ صلعم کے نبی ہونے کا اعلان کرنے سے

بہت پہلے "ایک روز میں نے محمدؐ کو مکہ کے بازار میں دیکھا تو اس خیال سے آنا سے کسی کام میں مددلوں گا ان سے کہا کہ کیا وہ وہیں ٹھہرے رہیں گے۔"

آپ نے وعدہ کیا، کہا "ہاں" اس کے بعد خرید و فروخت کرتا ہوا دوز کل گیا اور بھروسہ اس مقام پر نہیں گیا۔ اتفاق سے تین دن کے بعد پھر اس طرف سے گذرا تو محمد صلعم کو اسی جگہ منتظر پایا۔ میں نے تعجب کیا تو آپ نے کہا "میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہ آؤ گے میں نہیں ٹھہرا ہوں گا۔ ایسے میں تین دن سے یہاں ہوں" کیا پابندی وعدہ کی دنیا میں اس سے بہتر مثال مل سکتی ہے؟ سابت نامی ایک دوسرے صحابی جب نبوت کے بعد مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی آپ نے کہا "میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں" سابت نے کہا "آپ پر میرے ماں باپ قربان! آپ تجارت میں میرے ساجھی تھے لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھا۔ صَلَّ اللهُ عَلَىٰ حَبِيبِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔

شک سے پرہیز آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ آپ کی قوم کے لوگوں کا مذہب صرف مادہ پرستی تھا، بتوں کے علاوہ چاند، سورج تارے اور آگ ان تمام چیزوں کی عبادت ہوتی تھی۔ دوسرا اور کوئی طریقہ عبادت ان کے یہاں نہ تھا۔ آنحضرت کا خاندان تو کعبہ کا بچاؤ ہی تھا اور اسی مشہور بیت خانہ کی رحمن میں تین سو ساٹھ بیٹ ایک نامعلوم زمانہ سے قائم تھے، کنبیاں آنحضرت صلعم کے گھرانے میں پشتہ پشت سے چلی آتی تھیں اور یہ اب بڑا منصب سمجھا جاتا تھا کہ اس کے باعث آپ کے خاندان کو بڑی عزت حاصل تھی لیکن قرآن شریف اور حدیث شریف دونوں سے ثابت

ہے کہ آپ نے بچپن ہی سے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا نہ کبھی اپنی قوم یا خاندان والوں کے ساتھ ان کی عبادتوں میں شریک ہوئے۔ اسلام سے پہلے جب حج کا میلہ لگتا تو یہ عام رواج تھا کہ ہزاروں مرد عورتیں، بچے عرباں ہو کر طوان کعبہ کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم نے کبھی اس جاہلانہ رسم میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیا۔ بت پر خڑھائے ہوئے کھانے کو آپ نے کبھی نہیں چکھا۔ یہ رواج بھی عام تھا کہ عبادت کے موقعوں پر شراب تقسیم ہوتی تھی آپ نے شراب کو عبادت کے وقت یا اسکے علاوہ کبھی نہیں چھوا۔ آپ کو بچپن ہی سے ان تمام چیزوں سے نفرت تھی۔ یہ فطرت سلیم کا تقاضا تھا خدا نے آپ کو جس مذہب کی اشاعت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ ان تمام کمروہات سے پاک تھا اس لیے اس کے رہنما کی ذات بھی ان تمام مشاغل سے فطرۃً بالاتھی۔

عبادت اس معبود حقیقی کے پوجنے کے لیے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کے اندر جو کچھ ہے، ظاہر و باطن وہ سب بنایا، آنحضرت صلعم کو شروع ہی سے وہ طریقے بیچ نظر آتے تھے جو آپ کی قوم میں رائج تھے۔ آپ کا طریقہ عبادت اپنی قوم سے بالکل علیحدہ تھا آپ دن رات غور کرتے کہ یہ دنیا کیا ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے! ہمارا موت ہماری زندگی، اور زندگی کے تمام کام کس طاقت کے قبضہ میں ہیں اور ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہئے۔ چنانچہ آپ تنہائی میں جا کر ہیروں خدا کی شان و قدرت پر غور فرماتے اور دن رات اس معبود حقیقی سے لو لگائے بیٹھے رہتے

یہ وہی عبادت تھی جو آپ سے پہلے تمام انبیاء نے کی خصوصاً آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم کے بارے میں توراہ میں بھی لکھا ہے کہ جب آسمان پر تارے نکلے دیکھے تو خیال کیا کہ یہی خدا ہونگے چاند نکلا تو اس کے خدا ہونے کا شبہ ہوا، سورج کو دیکھ کر یقین ہی ہو چلا، لیکن جب یہ سب چیزیں نظروں سے غائب ہو گئیں تو چیخ اٹھے "میں ان فانی چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ میں اپنا منہ اسکی طرف مڑتا ہوں جس نے زمین و آسمان اور ان کے اندر کی تمام چیزیں پیدا کیں"۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی نبوت سے پہلے اسی قسم کی ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ سے تین میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ مہینوں وہاں جا کر مراقبہ کرتے اور دنوں بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے تھے کبھی کچھ روکھا سوکھا کھانا ہمراہ لیجاتے صحیح بخاری میں ہے کہ غار حرا میں محمد صلعم کی عبادت صرف غور و فکر تھی۔ خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر آپ اس طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور تمام کائنات کو اپنا پابند کیا۔ اللہم باریک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

شمع ہدایت

وہ شمع اُجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں
 اک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں
 گرا رض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو
 یہ رنگ نہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں

جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا

وہ رازاک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے

ڈھونڈے سے لے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں

(ظفر علی خاں)

حلیہ شریف | وقت تیزی سے گزرتا گیا سال پر سال بیت گئے

آنحضرت صلعم سن رشد کو پونچے میانہ قد، مناسب

خدو خال، سفید رنگ، پیشانی چوڑی، بھویں جٹی۔ دہن مبارک کشادہ اور

دندان مبارک بہت خوشنما آنکھیں بڑی اور سیاہ حدیث شریف میں ہے

کہ آپ کی آنکھیں حیا سے جھکی رہتی تھیں سر کے بال نرم نہ زیادہ گھنگرا لے

اور نہ بالکل سیدھے آپ کے بال کاندھوں تک لٹکے رہتے تھے سینہ پاک

بہت کشادہ، ہاتھ پیر مناسب دیکھنے والوں پر آپ کی خوب روئی کا بہت اثر

پڑتا تھا۔ عبد اللہ بن سلام جو ایک یہودی تھے نبوت کے بعد آپ کا وعظ

سن کر پہلے پہل جب خدمت میں آئے تو چہرہ اقدس کو غور سے دیکھ کر لولے

قسم ہے میرے خدا کی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے "جابر بن سمرہ ایک دوسرے

صحابی کہتے ہیں کہ ایک شب جب آنحضرت کھڑے ہوئے دنیا میں مشغول

تھے اور آسمان پر بالکل ابر نہ تھا میں کبھی آپ کو اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا

تو آپ کا چہرہ مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا تھا "آنحضرت صلعم

کی رفتار تیز تھی اور چلنے میں قدم نہایت ہلکے اٹھتے تھے۔ بات کرنے میں

ٹھہر ٹھہر کر بولتے اور آہستہ گفتگو فرماتے تہقہ مار کر کبھی نہ ہنستے۔

حضرت خدیجہؓ | مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک بیوہ خاتون خدیجہ الکبریٰ
رہتی تھیں ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں

آنحضرت کے خاندان سے ملتا ہے ان کی دو شایاں پہلے ہو چکی تھیں لیکن اب
پھر بیوہ تھیں حضرت خدیجہؓ فطرۃ نہایت نیک و شریف بی بی تھیں اس
قدر پاکیزہ اخلاق کہ ان کی مثال مکہ کی عورتوں میں نہ تھی ان خوبیوں کی بنا پر مکہ
والے انھیں طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے مرحوم شوہر نے بہت سامان
و اسباب چھوڑا تھا کہ سے جب کوئی قافلہ تجارت روانہ ہوتا تو حضرت خدیجہؓ
کا سامان تجارت اکیلا تمام مکہ والوں کے برابر ہوتا تھا حضرت خدیجہؓ کو ان کے
شوہر کے مرنے کے بعد ایک ایسے ایماندار آدمی کی تلاش ہوئی جو بطور نگران
ان کا سامان لے کر شام و مین کے بازاروں میں فروخت کرے حضرت خدیجہؓ
کو جب آنحضرت صلعم کی سچائی و ایماندارمی کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے آپ کو
بلا بھیجا۔ آپ اپنے چچا ابوطالب کی اجازت سے ان کے گھر تشریف لے گئے
حضرت خدیجہؓ کے طرز گفتگو کو آپ نے پسند فرمایا اور یہ دیکھ کر کہ وہ باوجود
ایک دولت مند خاتون ہونے کے آپ کے ساتھ نہایت اخلاق و احترام
سے پیش آئیں آپ ان کی بہت قدر کرنے لگے۔

حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت سے درخواست کی کہ آپ ان کا تجارتی سامان
لے کر قافلہ کے ساتھ جائیں۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ اور ان کا
سامان تجارت لے کر شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہؓ نے اپنے

ایک غلام میسرہ کو ہراو بھیجا اور تاکید کر دی کہ راہ میں محد صلعم، کو کوئی تکلیف نہ ہونے پاوے۔ اس سفر میں آنحضرت کو خلافت توقع بہت کامیابی ہوئی کثیر نفع لیکر آپ واپس ہوئے حضرت خدیجہ آپ کی منتظر تھیں آخر ان کے غلام میسرہ نے پہلے آکر قافلہ کی واپسی کی خبر دی۔ آنحضرت صلعم کے حسن معاملہ سچائی و دیانت داری، نیک عادات نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی آنحضرت صلعم قریش کے خاندان سے تھے بعد المطلب کے جانشین تھے۔ صورت و سیرت میں اپنی قوم میں سب سے افضل تھے اہل قریش کی امیر کسین لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ بیاہے جاسکتے تھے لیکن حضرت خدیجہ جو آپ سے عمر میں کہیں بڑی تھیں، بیوہ تھیں اور کسی بچوں کی ماں جب آپ سے شادی کی درخواست کرتی ہیں تو آپ منظور کر لیتے ہیں آنحضرت کے چچا ابوطالب کعبہ کے متولی کی حیثیت سے خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں اور پانچ سو درہم مہر کے ادا کر دیے جاتے ہیں لیکن شادی کے بعد آپ کی عبادت روز بروز بڑھتی گئی اور غار حرا میں پہلے سے زیادہ قیام کرنے لگے۔ مراقبہ میں بھی زیادتی ہوتی گئی۔ تاہم حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی خانگی زندگی نہایت کامیاب گزرنے لگی کیونکہ آپ حضرت خدیجہ کو اپنا سچا رفیق و عنخوار پاتے تھے حضرت خدیجہ سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب کبھی ان کا نام آجاتا تو آپ رنج و غم سے مضمحل ہو جاتے تھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیئہ اجمعین ؑ

دورِ سوم

نبوت اب وہ وقت آ پہنچا جس کے لئے حق تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یعنی مشیت ایزدی نے چاہا کہ آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمائے۔ چنانچہ ایک روز آپ غار حرا میں معمول کے مطابق عبادت الہی میں مشغول تھے کہ آپ کو ایک فرشتہ غیب نظر آیا آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ هَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ** پڑھ، آپ نے خدا کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو ظلم کے ذریعہ وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ "آپ نے کہا" میں اُنسی ہوں، یعنی پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ نے محسوس کیا کہ اس فرشتہ نے آپ کو تین بار سینہ سے لگا کر دبا یا "پھر کہا" پڑھ "اس مرتبہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے وہ الفاظ ادا کئے جو فرشتہ نے کہے۔ پھر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ قرآن شریف میں اس فرشتہ کو روح الامین اور روح القدس بھی کہا گیا ہے۔ مشہور نام جبرئیل علیہ السلام ہے حضرت جبرئیل کا آنا اور خدا کا پیغام لانا کوئی معمولی بات نہ تھی اس عجیب و غریب واقعہ نے آنحضرت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ آپ پر دہشت سی طاری ہو گئی جسم مبارک کا نینے لگا اور آپ جلال الہی سے لرزتے گھرائے حضرت خدا بچہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی متغیر حالت دیکھ کر فکر مند

ہوئیں۔ آپ نے حضرت خدیجہؓ سے کہا "مجھے کیل اڑھاؤ، مجھے کیل اڑھاؤ"۔
 تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو غار حرا میں جو کچھ دیکھا اور
 سنا تھا اُس کا پورا حال حضرت خدیجہؓ سے بیان کیا اور فرمایا کہ "مجھے ڈر ہے"
 حضرت خدیجہؓ نے کہا "آپ تو خدا کے نیک بندہ ہیں مصیبت میں لوگوں کے
 کام آتے ہیں۔ بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں
 کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہرگز فکر مند نہ ہوں، خدا آپ کو رنجیدہ نہ کرے گا،
 بلکہ آپ پر اپنی رحمت بھیجے گا" اس کے بعد حضرت خدیجہؓ آپ کو لے کر اپنے
 بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ ایک بوڑھے آدمی تھے آنکھوں کی
 بینائی بھی جا چکی تھی۔ وہ عربی و عبرانی زبانوں کے عالم اور توراہ و انجیل کے
 فاضل تھے۔ آنحضرتؐ کو غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا اُس کا نام باہر حضرت
 خدیجہؓ نے ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ نے اس واقعہ کی تصدیق کی اور کہا
 کہ "آج سے محمد (صلعم) نبی ہوئے۔ یہ فرشتہ تھا جو ان پر اترتا تھا، توراہ میں لکھا
 ہے کہ یہی فرشتہ حضرت موسیٰؑ پر بھی اترتا تھا۔ آسمانی کتابوں میں اس کو
 "ناموس" کہا گیا ہے کاش میں اُس وقت تک زندہ رہتا اور محمدؐ کی مدد کر سکتا
 اُس وقت جب ان کی قوم انھیں ستائے گی اور وطن سے نکال دے گی
 آپ نے ورقہ سے پوچھا "کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟" ورقہ نے
 جواب دیا "ہاں! جو کچھ تم کو پڑھایا گیا ہے یہ خدا کا کلام ہے جب تم لوگوں کو
 سزا دے گے تو لوگ تمہیں جھٹلائیں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے کیونکہ کوئی
 رسول ایسا نہیں آیا کہ جس نے خدا کا کلام سنایا ہو اور اُس کی قوم نے اُسے ستایا

نہ ہو اس واقعہ کے چند روز بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا خدا کے
 اس پہلے پیغام کا واقعہ جو اس نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آنحضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور جس نے آپ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ نے
 اپنی زبان مبارک سے خوف اور ڈر کا اظہار کیا۔ یہ ڈر یہ خوف فرشتہ کی شکل دکھانے
 نہیں پیدا ہوا تھا بلکہ یہ جلال الہی کا اثر، نبی ہونے کا خیال، اور راز ہائے
 قدرت کے ظاہر ہونے پر حیرت و استعجاب تھا۔ اور ان تمام چیزوں سے ملکر
 جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ آپ پر طاری تھی جس طرح توراہ میں مذکور ہے
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کوہ طور پر گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ وہ آگ
 نہیں بلکہ تجلی خدا ہے۔ پھر جب خدا تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا تو حضرت موسیٰ
 نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور سجدہ میں گر گئے یہ کیا تھا؟ کیا انھیں
 اپنی جان کا ڈر تھا یا کوئی شک و شبہ تھا؟ نہیں بلکہ یہ ان کے یقین و ایمان کا
 ثبوت تھا۔ کوہ طور پر جو واقعہ پیش آیا اسے حضرت موسیٰ کی حقیقت شناس
 طبیعت نے فوراً قبول کر لیا اور انھیں یقین آ گیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو
 روشنی ہے وہ خدا کا نور اور کانوں میں جو آواز آئی وہ خدا کی آواز ہے۔ تو بس
 حضرت موسیٰ اپنے آپ کو خدا کے رو بہ پا کر لرز گئے اور جلال الہی کی تاب
 نہ لا کر سجدہ میں گر گئے۔ عالم اسرار کی اس کیفیت کو نہ تو الفاظ ادا کر سکتے ہیں
 اور نہ عام انسانی فہم اس رمز کو سمجھ سکتی ہے۔ خدا و بندہ کے درمیان جب کوئی
 پردہ حائل نہ رہے راہ حق کی منزل مقصود سامنے ہو، تمام درمیانی حجابات
 اٹھ جائیں اس وقت نور حقیقت کی جلوہ پاشیاں بگاہوں کو خیرہ اور ہوش و

خرد کو منور بنا دیتی ہیں منزل حقیقت کی اس کیفیت سے صرف وہی لوگ آشنا ہوتے ہیں جن کو خدا نے اس راہ میں اپنی توفیق سے منزل مقصود تک پہنچایا ہو۔ اور یہ بلند درجہ عطا کیا ہو۔ یہ تھا خدا کے پہلے پیغام کا واقعہ۔ جو اُس نے اپنے آخری نبی آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعہ اتارا اُس وقت آنحضرت صلعم کی عمر کا چالیسواں سال تھا وحی کا نزول رمضان المبارک کے مہینہ میں ہوا اور اُس وقت سے لے کر تیسٹھ سال کی عمر تک یعنی عمر شریف کے آخری سال تک متواتر وحی نازل ہوتی رہی۔ کثرتِ نزول ماہ رمضان المبارک ہی میں ہوتی تھی اور اسی مبارک مہینہ میں سلسلہٴ وحی ختم ہوا۔ نزولِ وحی کے بعد آپ نے پوشیدہ طور پر لوگوں کو پیغام حق سنانا شروع کیا۔ جن لوگوں کو نیکی کی طرف مائل پایا انھیں توحید کی دعوت دی۔ اُس وقت عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی رفیقہ حیات اور نیک بیوی حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائیں۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی عمر صرف آٹھ سال تھی اور دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ تقریباً تین سال تک اسی طرح آپ دین ابراہیم کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب خدا نے حکم دیا کہ اے میرے رسول علانیہ اپنے رب کا پیغام لوگوں کو سناؤ اور مشرکوں سے نہ ڈرتی رہو۔ تیرے ساتھ ہے۔ اس حکم کے بعد آپ نے اپنے نبی ہونے کا علی الاعلان دعویٰ کیا اور لوگوں میں اسلام کی تبلیغ عام شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ورقہ بن نوفل کی پیشین گوئی حروف پوری ہوئی اور تبلیغ اسلام کے اس ابتدائی دور میں آپ کو جن مصائب اور مشکلات سے

دو چار ہونا پڑا اور آپ نے جس ثابت قدمی اور استقلال سے سب کچھ برداشت کیا اس کی نظیر دیگر انبیاء میں بھی نہیں ملتی۔ لیکن چند ہی سال میں کفر اور شرک کی زبردست قوتیں اسلام کے قانون وحدت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں اور شرق سے غرب تک حق و صداقت کی آواز گونج گئی۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاٰهْلِ بَيْتِهِ وَاٰلِهِ
ذُرِّيَّاتِهِ اَجْمَعِينَ ؕ

بہارِ رحمت

بہارستان ہستی کیلئے دورِ شباب آیا رگِ فطرت میں ربوانِ نو کا اضطراب آیا
نظامِ آفرینش کو پیامِ انقلاب آیا فضا کے کن فیکاں میں پرچمِ ختمی تاب آیا
شہنشاہِ دو عالم مہبطِ ام الکتاب آیا

وہ موجِ بیقرار اٹھی ہے عمانِ تجلی سے زمانہ جنگگاہ اٹھا ہے فیضانِ تجلی سے
شہستانِ جہاں روشن ہوئی شانِ تجلی سے ہوئی ظلمت گزراں جوں طوفانِ تجلی سے

برسات کے افق پر نور حق کا آفتاب آیا

وہ آئینہ دکھایا جس نے عکسِ رُشے جاناں کو نمایاں کر دیا جس نے فروغِ حسن نہاں کو
عطا کی دولتِ نظارہ جس نے دیدہ جاں کو چراغاں کر دیا جس نے تجلی گاہِ امکاں کو

وہ جلوہ اب جمالِ احمدی میں بے نقاب آیا

معارف کا خیابان تازہ جس کی رخسہ باری سے مکارم کا جمن شاداب جس کی آبِ باری سے
شمارا جس نے عالم کو کیا توحید باری سے دلوں کی کھیتیاں سبز جس کے فیضِ باری سے

وہ دریائے کرم آیا وہ رحمت کا سحاب آیا

نہ مانے کوئی بد باطن مگر دنیا تو ایساں ہے کہ اس کی شان عالی ماوراء القمب انساں ہر
 ملک بھلی س میر نور پر شہد ہر حیران ہے در دولت سر کی گو ابھی زنجیر جنباں ہر
 مگر وہ جا کے بزم لامکاں کو بار یاب آیا

سچایا جائے گا دربار حبس سرکار وحدت کا تو عالم دیدنی ہو گا کہ نہ کار ان امت کا
 یغل ہو گا وہ آیا کو کیا شاہ رسالت کا بھرم کھلنے کو ہر اب تائش ہر قیامت کا
 لوئے سجدے کر شافع یوم حساب آیا

اخلاق و عادات

تعلیمات الہی کے عمل نمونے

انبیاء علیہم السلام اور دیگر مصلحین
 عالم کے حالات سیرت جو آج

تاریخ میں محفوظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں
 کی اصلاح و ہدایت کے لیے جب اپنے خاص بندوں کو پیدا کیا تو ان نفوس
 قدسیہ میں ایسے جامع اوصاف و کامل صفات و دعوت کیے کہ جن کی مدد سے
 یہ رہنا اپنے وعظ و پند کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات سے بھی تعلیم کا عملی نمونہ
 پیش کر سکیں جو سبق خلق خدا کو پڑھائیں اسکا ایک ایک نکتہ خود ان کے دائرہ
 عمل میں ہو۔ عام انسانوں سے وہ جو کچھ کرنے کو کہیں پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو کہ
 اس کے عمدہ نتائج دنیا کے سامنے رکھیں کیونکہ صحیح اصول تعلیم کے مطابق کوئی
 تعلیم اس وقت تک اثر پذیر نہیں ہو سکتی جب تک تعلیم دینے والا خود اپنی تعلیم
 کا آپ نمونہ نہ ہو۔ اس راہ میں انبیاء علیہم السلام کا کام دنیا کے دوسرے مصلحین

سے زیادہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ان بزرگوں کو چند شاگردوں کی مختصر سی جماعت کو نہیں، قوموں کو تعلیم دینے بلکہ نئی نوع انسان کے آداب و اخلاق کو مجموعی حیثیت سے سنوارنے اور پاکیزہ بنانے کا ذمہ دار ٹھہرا کر مبعوث کیا گیا اور ان بزرگ ہستیوں کو صفات کاملہ عطا فرما کر عالم وجود میں لایا گیا اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اخلاق ہی کے چیدہ چیدہ اصولوں پر قائم کی اور سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولو جھوٹ سے بچو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، چوری نہ کرو۔ نفس کو مارو اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو وغیرہ۔ انبیاء علیہم السلام کو چونکہ خدا نے فرمان الہی کا حامل اور اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا ان مقربین خاص کو تعلیم زبانی کے صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ اس وصف میں بھی انبیاء کا درجہ دیگر مصلحین سے بہت اونچا نظر آتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم تلقین کو اللہ ہی کا حکم قرار دیا۔ فرمان الہی کے سوا انہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد کسی عقلی فلسفہ پر قائم نہیں کی جو قول و فعل انہوں نے اختیار کیا وہ خدا کا حکم اور اسی کی طرف سے ہدایت سمجھ کر کیا اس لیے وہ خود ان احکام کی خلاف ورزی سے بچا ہانگتے اور لوگوں کو ان کی حکم عدولی کی سزا سے ڈراتے تھے تاکہ لوگ مکمل طور پر ان کی تعلیم سے بہرہ مند ہو سکیں اور انسانی اخلاق اپنی تمام غلاظتوں سے پاک و صاف ہو کر اس نقطہ پر پہنچ جائے جہاں ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس فرض کو انجام دینے کے لیے مختلف زمانوں میں نبی پیدا ہوتے رہے اور انسان کے پست اخلاق کو درست کرنے کی تعلیم دیتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سوانح حیات سے ثابت ہے کہ ان مقدس معلمین کو اپنی جدوجہد کے دوران

میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ طرح طرح سے ستائے گئے، سخت ترین ایذائیں و تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ان کی شان میں ذلیل ترین تحقیر و توہین روارکھی گئی کسی کو جلا وطنی کی سزا دی گئی، کسی کو سولی پر چڑھایا گیا اور کسی کو آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن ان اولوالعزم ہستیوں نے یہ تمام مصیبتیں صبر و استقلال کے ساتھ جھیلیں اور اپنے قول و فعل سے نہ بھرے۔ آخر دم تک اپنی تعلیم و تلقین کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

اخلاق محمدی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہ حیثیت ایک معلم اخلاق کے تمام مصلحین عالم میں ممتاز و ارفع نظر آتی ہے۔ آپ کی حیات اقدس کا یہ حصہ اخلاق کے دوسرے معلمین کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخت اور بھیدہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح اس کے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ عملی ہے۔ آپ کے فضائل اخلاق کا صحیح اندازہ اُس وقت ہوتا ہے جب آپ کی حیات پاک کے ایک ایک قول و عمل کو بہ نظر غور دیکھا جائے کہ آپ نے احکام خداوندی اور تعلیم ربانی کی جو تبلیغ و تلقین فرمائی اس پر خود کتنی شدت کے ساتھ عمل کیا۔ آپ جو تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود اس کا کیسا صحیح نمونہ تھے۔ آپ نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر وعظ کرنے یا پہاڑیوں پر چڑھ کر خطبہ دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے ذاتی عمل سے پہلے خود اسکو کر کے دکھایا جو لوگوں سے کرنے کو کہا۔ آپ کا جو قول تھا وہی عمل تھا جو عمل تھا وہی قول تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کے پیش نظر تھا کہ "لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"

کیوں کہتے ہو تم لوگ جو کرتے نہیں۔ آپ نے تعلیم ربانی کا جو درس دنیا کو
 دیا اُس کے ایک ایک نکتہ کی خود تمام عمر پابندی کی۔ کوچہ و بازار میں جو بچتیں
 لوگوں کو کیں آپ خود اپنے گھر میں اسی طرح نظر آتے تھے۔ آنحضرت کی
 ذات گرامی دنیا کے کئی اخلاقی واعظوں کی طرح صرف روحانیت کا پیام
 لے کر نہیں آئی تھی نہ آپ نے انسان کو اخلاقی ترقی کا صرف یہی ایک راستہ
 دکھایا کہ دنیا کو چھوڑ دینے اور دنیا والوں سے منہ موڑ لینے میں بھی نجات ابدی
 ہے یا خدا کے بنائے ہوئے جسم کو تکلیف میں ڈال کر ہلاک کر دینا اور اس
 طرح دنیا کی نجاستوں سے بچنا چاہیے۔ نہیں بلکہ آنحضرت صلعم کے ذریعہ جو
 تعلیم ہم کو ملی اُس سے ہم نے سیکھا کہ انسان اپنی زندگی سے نہ تو نفرت
 کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ایسی محبت کرنے کے لئے کہ اپنی جان
 کے سوا دوسری جان کو بیچ سمجھے۔ بلکہ یہ کہ جب ہم کو اپنے پیدا ہونے پر کوئی
 قدرت حاصل نہیں تو موت پر بھی اختیار نہیں۔ ہماری پیدائش، زندگی، موت
 اور زندگی کے سارے کاموں پر صرف ایک اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی
 قادر مطلق کے حکم سے انسان دنیا میں آتا ہے، اسی کی دی ہوئی زندگی پوری
 کرتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ انسان کا کام بس اتنا ہے کہ جب
 وہ اپنے خالق کی طرف لوٹے تو ویسا ہی پاک و صاف جائے جیسا کہ اُس
 وقت تھا جب خدا نے اُس کو دنیا میں بھیجا۔ یہ انسان کی کامیابی ہے اور
 اس کا دار و مدار اُس کے اخلاق پر ہے، انسان کی اس کامیابی پر خدا نے اُسکے
 لئے بڑے انعامات کا وعدہ بھی کیا ہے اور یہ انعام جنت الفردوس کی صورت

میں حاصل ہوں گے اسلام کے معلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم
 سے انسان کی اس حیثیت کو بہت صاف و واضح کر دیا اور اس کے لیے دنیا و
 آخرت کے انعام کا ایک سیدھا اور قدرتی راستہ دکھایا۔ آپ کا قول ہے کہ مسلمان
 کے لیے دنیا اس کے دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ دین کی کامیابی کا دار و
 مدار دنیا ہی کے اعمال پر ہے غیر مذہب و وحشیانہ حرکات سے پرہیز اور پاکیزہ
 اخلاقی نفس انسانی کو حیوانی خواہشات سے پاک اور فاسد خیالات سے
 مبرا کرتے ہیں۔ اخلاق ہی وہ چیز ہے جو حیات انسانی کے ہر شعبہ میں نمایاں
 نظر آتا ہے۔ دین و دنیا دونوں کے معاملات میں یکساں اخلاق کی اہمیت منظر
 ہے۔ انسان دنیا دار ہو یا تارک الدنیا، امیر ہو یا غریب، صاحب اقتدار ہو یا
 بے اختیار، بادشاہ ہو یا فقیر، حاکم ہو یا محکوم، مصیبت زدہ ہو یا فارغ البال،
 اخلاق کے دائرہ سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا۔ اُسکی زبان کا ایک ایک
 حرف اُس کے افعال کی ایک حرکت اُس کی شکل و صورت، وضع قطع،
 اُس کی ظاہری باطنی زندگی اُس کے اخلاق کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اگر انسان
 کے تمام اقوال و افعال سوتے جاگتے، اُٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں حقیقی اخلاق
 کے معیار پر پورے اُترتے ہیں تو یہی اُس کی کامیابی ہے۔ راحت اور سکون
 اطمینان اور آرام کی حالت میں ممکن ہے کہ ایک با اصول شخص اپنے اخلاقی
 توازن کو ایک حد تک قائم رکھ سکے لیکن انسان کی آزمائش کا سخت ترین
 پہلو وہ ہے جب اُس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، شدید آلام و مصائب کا سنا
 ہو۔ فاقہ کی تکلیف ہو۔ بے درپے حوادث سے گزرے اور ڈگمگانے جائے۔

انسان کے اخلاق کا روحانی کمال یہ ہے کہ وہ ان تمام آلام و مصائب کی اذیتوں اور تلخیوں میں بھی اخلاق سے گرنے نہ پائے۔ اور یہ یقین رکھے کہ انسان کا فرض ہر حال میں تیک عمل کرنا ہے۔ کامیابی و ناکامی خدا کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان اخلاق کے اس معیار پر پورا اترتا تو سمجھ لے کہ اُس نے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔

اسلام کی تعلیم میں یہی روحانیت کا اوج کمال ہے۔ یہاں حیات انسانی دنیا کی تمام غلاظتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر خدا کے نور سے جگمگاتی اور رحمت حق سے جلا پاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی اور اُس کا نمونہ عمل خود آپ کی ذات اقدس تھی۔ آپ کی پوری عمر آزمائش و امتحان میں گزری۔ آپ کی سوانح کا ایک ایک واقعہ شاہد ہے کہ آپ کی زندگی کیسے شدید آلام و مصائب، ایوسی، فقر و فاقہ، اور ان تمام ایذاؤں و تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں کو بھی کم و بیش پیش آئیں۔ اس لیے قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی تلقین فرماتا ہے۔ سورہ احقاف میں حکم ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْ اَللَّعْرُومِ مِنَ الرُّسُلِ، اور تو صبر کر جس طرح رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا! آنحضرت صلعم خدا کے اس ارشاد پر جس استقلال کے ساتھ تمام عمر قائم رہے اس سے ظاہر ہے کہ آپ کا عمل کس قدر پختہ و مستحکم تھا اور آپ کو احکام خداوندی پر کیسا کامل یقین تھا۔ آپ کی ثابت قدمی کی ایک ادنیٰ مثال آپ کی اوائل عمری کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب کفار مکہ آپ کو طرح طرح سے ستا کر تھک گئے اور

آپ حق کا پیام دیتے ہی رہے تو آپ کے قتل کی سازشیں شروع ہوئیں۔
لیکن جب رحمت الہی نے آپ کو ان ناپاک کوششوں سے بھی بچا لیا تو مشرکین
قریش نے اپنی ذہنیت کے مطابق ایک نہایت کارگر تدبیر نکالی وہ یہ تھی کہ
آنحضرت صلعم کو دولت و مال اور عیش و عشرت کا لالچ دے کر انہیں ان کے
راستہ سے بھٹکانے کی کوشش کی گئی ہے

یہاں حق کی اشاعت کیلئے ایشارہ قربانی وہاں ہر ایک قدم پر کفر و باطل کی فراوانی
یہاں یہ کوششیں دنیا کو راہ راست پر لائیں وہاں گمراہیوں کا جوش اور گمراہ نادانی
چنانچہ آپ کی قوم کے تمام سربراہ اور مشرکین جمع ہو کر آئے اور کہا "اے محمد!
مکہ کی بادشاہت لے لو، قریش کے رب کے اونچے گھرانہ میں شادی کر لو جتنے
چاہو لو، بڑی عظام حاضر ہیں لیکن اپنی تعلیم و تلقین سے باز آؤ، اہل قریش کے
جو اب میں آپ نے فرمایا، یا اہل قریش! اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور
دوسرے پر سورج لاکر رکھ دو تب بھی میں وہی کہتا ہوں گے جو کہتا ہوں یہ تو میرے
رب کی طرف سے میرے لیے حکم ہے" ایک انسان کی طاقت سے یہی ہے
کہ وہ مصیبتوں میں پھنسا ہو، بے یار و مددگار ہو۔ دشمنوں سے نہیں بلکہ دوستوں
اور عزیزوں کے ہاتھوں ستایا جا رہا ہو اور مصائب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اسکی
زندگی کا ایک جزو بن گیا ہو اس وقت ایسے گمراہ کن مواقع سامنے آتے ہیں اور وہ
ڈگمگانہ جاتے۔ ایک بشر سے یہ معجزہ اسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے جب
خدا نے اسے اپنی توفیق سے روحانی کمال کا اتنا اونچا درجہ عطا کیا ہو کہ وہ
مقابلہ تشریح مضبوط اخلاق کا مالک ہو۔

آنحضرت صلعم چونکہ دنیا کے معلمین میں آخر تھے اور آپ کی ذات پر
تعلیم خداوندی کی تکمیل ہو رہی تھی اس بنا پر معلمین اخلاق کی جماعت میں
سب سے زیادہ بار آپ کے دوش مبارک پر آیا۔ دنیا کے مشہور مصلحین کی
جس قدر تاریخ آج دنیا میں محفوظ ہے اس سے ثابت ہے کہ ان تمام مقدس
نفوس کی تعلیمات کا دائرہ محدود اور ان کے علی الاعلان وعظ ویند کا عرصہ
نہایت مختصر رہا۔ اس میں بھی انہوں نے انسانی زندگی کے کسی ایک خاص پہلو
پز بحث کی کسی نے شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم کے مقابلہ میں فوج
کشی کی تعلیم دی اور انصاف کے لیے خود بھی میدان جنگ میں کام کیا کسی نے
ظلم و تشدد کے تدارک کے لیے محض روحانی پہلو اختیار کیے اور معافی اور
درگزر کے سوا اور کوئی عملی سبق نہیں پڑھایا کسی نے اخلاق کی درستی
کے لیے فقیری اور در بدر بھیک مانگنے کا راستہ دکھایا لیکن جب انسان نے
ان ضرورتوں کے لئے اپنی جنس کا خون بہانا پسند نہ کیا، یا نفس کشی کی ناقابل
عمل نصیحتوں پر چلنے سے قاصر ہوا تو پھر اس کی سنگدلی و شرارت کا نہ صرف
خدا سے شکوہ کیا بلکہ بعض نے عالم مایوسی میں بد اعمال لوگوں کے لیے بد عاقبت
بھی کیں۔ اور بندوں کی نافرمانی کی سزا میں خدا سے عذاب نازل کرنے کی
درخواست کی۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتب درس مسلسل ۲۳ سال تک جاری
رہا اس مدت میں آپ کی تعلیم انسانی زندگی کے ہر پہلو پر ہوتی رہی اور خود معلم
کی ذات اس کی تعلیم کا عملی جامہ تھی۔ یہ تو آپ کی تعلیم و تلقین کا وہ حصہ تھا جو

آپ کی نبوت کے دعویٰ کے ساتھ عام ہوا اور اس کے فیض کا چشمہ پورے ۲۳ سال تک جاری رہا لیکن آپ کی ابتدائی سیرت پاک کے واقعات سے ثابت ہے کہ اس تعلیم کا عمل آپ کی زندگی کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ قرآن شریف میں آپ کے خلق کی نسبت آیا ہے **وَإِنَّكَ تَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** اور بیشک تیرا خلق بہت بلند ہے۔ اس کے معنی نہیں کہ آنحضرت کا خلق ان پر وحی نازل ہونے کے بعد مکمل ہوا بلکہ اس کے معنی ہیں کہ آپ خلق کا بلند درجے کر عالم وجود میں آئے چنانچہ ابھی آپ بچہ ہی تھے کہ آپ کا ایک ایک عمل بلند اخلاقی کا بہترین نمونہ تھا خلق عظیم کے کارنامے آپ کی ذات اقدس سے بچپن ہی میں ظاہر ہوتے تھے نبوت کے بعد ان پر صرف احکام خداوندی اور قانون الہی کی ہر نگاہی گئی۔ اہل عرب جن کے اخلاقیات کی بنیاد پست ترین اخلاقی خرابیوں پر قائم تھی وہ آپ کے بچپن میں آپ کی سچائی و راست بازی کا عمل دیکھ کر تعجب کرتے تھے اور اپنی ہی قوم کے ایک صاحب اخلاق کی جیسی جاگتی تصویر دیکھ کر حیرت تھے اور آخر انھیں اخلاق کے اس پیکر کامل کی عظمت و بزرگی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔

یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہی کی تاثیر تھی کہ آپ کی غیر مہذب و وحشی قوم نے کم سنی ہی میں آپ کو امین کا لقب دیا۔ اور جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پکارا کہ "اے گروہ قریش اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے سے تم پر ایک دربر دست عنیم چڑھائی کر رہا ہے تو کیا تم میرا یقین کر لو گے؟" اُس وقت گے کے مشرکین نے جن میں چند بڑے آدمی اور وہ کار تھے ایک زبان

ہو کر کہا "ہاں اے محمد ہم تیرا یقین کریں گے کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا" آپ کی سیرت پاک کے ان تمام تاریخی واقعات سے جو قرآن و حدیث دونوں میں محفوظ ہیں یہ ثابت ہے کہ آنحضرت کی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہیں ہے آپ کی حیات اقدس کا ایک ایک واقعہ آپ کی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ؕ

آپ سے پہلے جتنے انبیاء گذرے ان سب میں کسی کی شخصیت ایسی

خلق عظیم خصائل پاکیزہ

نظر نہیں آتی ہے جو عملی حیثیت سے ایسی کامل ہو کہ اس کی تعلیم کی عملی مثال بھی سامنے موجود ہو اور وہ مثال ایسی کہ ہر انسان کے لیے قابل عمل ہو پچھلے روحانی پیشواؤں میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی اخلاقی شکل و صورت کی پوری شبیہ ہر انسان کے لئے مفید و کارآمد ہو اور عام انسانوں کے لیے قابل عمل ہو۔ بلکہ اکثر پیشواؤں کی زندگیوں اور ان کے تمام کارنامے عام انسانوں کی قوت اختیار سے باہر اور مافوق فطرت نظر آتے ہیں۔ ان کی پیدائش، زندگی، اور موت کے بیشتر واقعات معجزات و خوارق کے زنگ میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ عام انسانوں سے ان واقعات کا ظاہر ہونا محال و خلاف فطرت معلوم ہوتا ہے اسی بنا پر قدیم عہد میں جب کہیں برگزیدہ بندے پیدا ہوئے اور انہوں نے سرکش انسان کو عاجز کرنے کے لیے معجزاتی سے کام لیا تو انسانی دماغ نے ان کو اپنا جیسا ایک انسان ماننے میں پس و پیش

کیا۔ لیکن بظاہر شکل و صورت آدمی کی تھی اس لیے انہوں نے اس عقیدہ
 پر اکتفا کیا کہ وہ خدا تھا جو انکی شکل میں زمین پر اتر ا تھا چنانچہ جب آنحضرت
 صلعم نے مکہ میں قریش کے سامنے دعویٰ نبوت کیا اور اعلان کیا کہ وہ انہیں
 جیسے ایک انسان ہیں لیکن اللہ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا
 ہے تو آپ کی قوم نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور
 کھاتا پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں میں سے ہوں۔ ایسے ہی واقعات کی بنا پر
 ان بزرگوں کی سیرتوں میں معجزات و کرامات کے سوا ان کی اخلاقی و عملی زندگی
 کا حال بہت کم محفوظ رہ سکا اور یہ خیال عام ہو گیا کہ ان لوگوں کو ایک معمولی
 انسان کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو انسانوں سے بلند و بالا کچھ اور
 ہی ہستیاں تھے۔ اور انہوں نے جہد ہی قانون اپنے پیروؤں کے لیے
 مرتب کیا انہیں خود اس کی پیروی کی حاجت نہ تھی۔ جو نصیحتیں خلق خدا کو کیں
 انہیں خود اس پر کیوں عمل کرنا چاہیے تھا! وہ تو خود خالق و قادر تھے۔ اس کا
 لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان مقدس معلمین کی عملی زندگی پر روحانی قصوں اور افسانوں
 کا ایک پردہ بڑ گیا۔ اسلام کے نزدیک یہ عقیدہ شخصیت پرستی اور اوصاف پرستی
 ہے۔ خدا کے پیدا کیے ہوئے بندوں کی شان میں غلو و افراط کرنا خدا کے
 حقیقی کی شان کبریائی میں فرق لانا ہے اور یہ بمنزلہ شرک کے ہے اسلامی تعلیمات
 میں شرک کو سب سے بڑا جرم اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون
 سی ہستی ایسی نظر آتی ہے جس نے بد اخلاقی اور مذہبی عقیدہ کے اس بنیادی

نقص کا استیصال اس طرح کیا ہو کہ قدم قدم پر خدا سے واحد کی وحدانیت
 و یکتائی کا اعلان عام کیا ہو۔ آپ برابر اپنی تعلیم و تلقین میں اعلان کرتے
 رہے کہ میری سخاوت میں یہ لفظ نہ کرو۔ آپ کا یہ اعلان خدا ہی کا اعلان تھا
 جس کی تائید میں خود خدا کا ارشاد سورہ جمعہ میں یوں ہے "اور بیشک پیغمبر
 ان کو اپنے خدا کی باتیں سناتا اور ان کو پاک و صاف بناتا اور ان کو کتاب
 و حکمت سکھاتا ہے۔ یہ شان تکمیل اخلاق آنحضرت کے سوا اور کون بڑی ہستی
 ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں لے کر آئی؟ آپ کی حیثیت ایک انسان، ایک
 دوست، ایک باپ، ایک بیٹے، ایک شوہر، ایک استاد، ایک حاکم، ایک مجاہد
 ایک عابد و خاد، ایک دنیا دار اور آخر میں ایک صاحب معجزات و کرامات
 کی نظر آتی ہے اور کہیں ایک نکتہ احکام خداوندی سے باہر نہیں ہے یہی آپ کی
 سیرت ہے جس کا مجسم عملی نمونہ بن کر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اگر غریبوں
 اور مسکینوں کی مدد کا دوسروں کو حکم دیا تو پہلے خود ان کی مدد کی، بھوکوں کو کھلانے
 اور مہانوں کی خاطر کرنے کی نصیحت کی تو پہلے خود اس فرض کو انجام دیا۔ آپ اور
 آپ کا گھر بھر فاقہ سے سویا لیکن جو میسر تھا مہمان کو کھلا دیا گیا۔ جسم مبارک پر
 صرف ایک پیوند رکرتہ ہے راہ چلتے ایک سائل کرتہ کا سوال کرتا ہے اپنے
 کرتہ اتار کر حوالہ کر دیا اور جسم کو چادر سے ڈھانک لیا۔ آپ نے معافی اور درگزر
 کی تعلیم دی تو خود پہلے اپنے دشمنوں قاتلوں کو معاف کیا۔ اپنی ذات کے لیے
 کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کوئی ایک مثال کسی ایک خاص موقع پر قائم نہیں کی بلکہ تمام عمر آپ اپنے عمل

پر قدرت کے ساتھ قائم رہے آپ نے جو نصیحت دوسروں کو کی اس پر خود ایک ہی دفعہ زندگی میں عمل کر کے نہیں دکھایا بلکہ آخر دم تک آپ کے عمل میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے کارنامے مثلاً نہیں کیے بلکہ عادتاً انجام دیے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ "آنحضرت نے اپنے عمل سے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا کہ انسان سے بھلائی کا کوئی کام زندگی میں کبھی کبھی ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ آپ نے یہ کر دکھایا کہ اگر آدمی استقلال کے ساتھ اعمال صالح پر قائم رہے تو وہ اس کی فطرت تانیہ بن جائیں گے۔"

حُسنُ خُلُق انسان کے اخلاق کا حال بیوی سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آنحضرت کی ۲۵ سال سے لے کر ۵۰ سال کی عمر تک رفیقہ حیات رہیں جب آپ پہلی وحی کے نزول پر لرزے ہوئے گھراتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی ہیں: "آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا، آپ تو اس کے نیک بندے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔"

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آنحضرت صلعم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا اور نہ بد عادی۔ آپ نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی۔ نہ کسی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے کبھی مارا۔ آپ نے خدا کے حکم سے جہاد کیا لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے ہتھیار نہیں استعمال کیا۔ آپ نے کبھی کسی خدمت کے لیے کسی شخص کی درخواست رد نہیں کی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو آپ کا چہرہ ہمیشہ

گفتہ رہتا تھا۔ مجلس میں کبھی ہاتھ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ بلکہ ادب
 کے ساتھ بیٹھتے اور ادب کے ساتھ اٹھتے تھے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر اس طرح
 صاف الفاظ میں فرماتے کہ ایک ایک لفظ ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ جو آپ کے چچا زاد بھائی، رفیق اور داماد تھے زندگی بھر
 آنحضرت صلعم کے ساتھ رہے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم
 سے آنحضرت صلعم کے بارے میں اس طرح فرماتے تھے کہ آپ خندہ چین، نرم
 مزاج، نہایت مہربان اور فیاض دل تھے۔ کبھی کوئی بڑا کلمہ زبان سے نہیں
 نکالا، کسی کی عیب جوئی نہیں کی۔ نہ خود کسی کی غیبت کو سننا گوارا کی۔ آپ
 اپنے ہاتھ اور پاؤں اور ہر مکن ذریعہ سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔
 جب آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے زانو کبھی برابر بیٹھنے والوں کے
 آگے نہ نکلتے۔ جب آپ وعظ کرتے تو صحابہ پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی
 خاموشی و سکون سے پوری توجہ کے ساتھ سنتے آپ خود کسی کی بات درمیان
 سے کاٹ کر کبھی نہ بولتے۔ دوسرا جب تک باتیں کرتا رہتا آپ نہ اس کی
 بات کاٹتے نہ سننے سے اکتاتے خواہ کتنی دیر ہو جائے، آپ قہقہہ مار کر کبھی
 نہ ہنستے تھے ہنسی کی کوئی بات ہوتی تو صرف تبسم کرتے۔ اکثر اپنے صحابہ سے
 فرماتے کہ اگر تم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو روتے زیادہ اور ہنستے
 کم۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننا بھی پسند نہ کرتے تھے کہ تعریف صرف
 اللہ کے لیے ہے، عرب رسالت آپ کے چہرہ مبارک سے صاف ظاہر تھا۔
 جب پہلے پہل کوئی آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں

آپ سے محبت کرنے لگتا یہ ہند بن ابی ہالہ سے روایت ہے کہ آنحضرت زوم
تھے سخت مزاج نہ تھے آپ اپنے دشمنوں کی بھی تو ہین گوارا نہ فرماتے چھوٹی
چھوٹی باتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے کسی چیز کو بڑا نہ کہتے تھے۔ آپ نے کبھی
کسی پر غصہ نہیں کیا اور نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیا۔ حضرت علیؓ
حضرت عائشہؓ حضرت انسؓ حضرت ہند ابی ہالہ وغیرہ سے صحیح بخاری میں
روایتیں منقول ہیں کہ آپ نہایت رحمدل خوش اخلاق اور نیک میرت تھے
آپ کا چہرہ ننگفتہ رہتا۔ لیکن بڑی متانت پکنتی تھی۔ آپ نے کبھی کسی کی
دل شکنی نہیں کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی سے ملنے کے وقت
ہمیشہ خود پہلے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے خواہ ملنے والوں میں عورتیں یا بچے
ہی کیوں نہ ہوں لیکن سلام میں ہمیشہ خود پیش قدمی کرتے تھے راہ چلتے اگر
بچے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جب تک خود نہ چھوڑتے آپ کبھی اپنا ہاتھ نہ
چھڑاتے تھے۔ مدینہ میں ایک پاگل عورت رہتی تھی یہ اکثر راہ چلتے ہوئے
آنحضرتؐ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور چلہ پٹی آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے
کبھی لکڑیوں کا گٹھا آپ کی بیٹھ پر لاد دیتی آپ یہ بوجھ اٹھا کے چلتے رہتے
اور جب تک وہ خود بچھا نہ چھوڑتی آپ واپس نہ ہوتے۔ ایک دفعہ
حبش کے بادشاہ نجاشی نے سفارت بھیجی سفارت کے رکن سب کے سب
غیر مسلم تھے۔ آپ نے انھیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود ان کے تمام کام
انجام دیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کو کرنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا
ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے اس لیے مجھے خود ان کی

خدمت گزاری کرنا چاہیے۔ عتبان بن مالک جو اصحاب بدر میں سے تھے آخر عمر میں اندھے ہو گئے تھے۔ آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ جا کر ان کے گھر میں ایک بار نماز پڑھ لیتے تو وہ اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتے آپ اسی وقت ان کے گھر گئے اور صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی اس کے بعد عتبان نے آپ کے سامنے کچھ کھانا لاکر رکھا آپ نے ان کے تمام پڑوسیوں کو کھانے میں شریک کیا ان میں سے ایک شخص مالک بن عیش نظر نہیں آئے کسی نے کہا وہ منافق ہیں ہونوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتے نہ کھانے میں۔ آپ نے فرمایا "یہ نہ کہو جو شخص خدا کی مرضی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس پر آگ حرام کر دیتا ہے" ہجرت کو شروع زمانہ میں آپ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ایک انصاری کے گھر مہمان تھے۔ میزبان کے یہاں سوائے چند بکریوں کے دودھ کے اور کچھ کھانے کو نہ تھا یہ بھی دن اور رات میں ایک دفعہ۔ آپ رات کے وقت پہلے سب جماعت کو دودھ پلوا دیتے میزبان اور ان کے خاندان کو بھی پلواتے اگر کچھ بچ رہتا تو خود ملی لیتے ورنہ یوں ہی سو جاتے ایک شب آپ نے دعا کی "خدا یا جو آج کھلا دے اس کو تو بھی کھلا دینا" اور ایک بکری کو دوبارہ دھننے کو کہا۔ خدا کی رحمت سے اتنا دودھ نکلا کہ میزبان اور ان کے خاندان نے سیر ہو کر پیا اور آپ نے بھی نوش کیا۔ روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلعم اونٹ پر سوار جا رہے تھے راہ میں عقبہ بن عامر نے اور ساتھ بیٹے آپ کے ان سے اپنے برابر اونٹ پر بیٹھ جانے

کو کہا لیکن عقبہ کی ہمت رسول اللہ کے برابر بیٹھنے کی نہ ہوئی۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو خود بھی اتر پڑے اور اونٹ کی ہمار بکڑے عقبہ کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و سلمہ۔

آنحضرت صلعم نے صرف جانداروں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت نہیں کی بلکہ بیجان چیزوں کے استعمال کے بھی عمدہ طریقے بتائے آئیے فرمایا کہ ہر اس چیز کا جو تم اپنے کام میں لاتے ہو خدا کے یہاں حساب دینا ہو گا اس کے معنی یہی ہیں کہ انسان خدا کی نعمتوں کا بیجا تصرف نہ کرنے پائے۔ اور وہ شے جو اسکی زندگی کی ضروریات کے لیے اہمیت رکھتی ہے انسان کی دست برد و غارتگری سے محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ آپ نے سبز و رخیوں کو بلا ضرورت کاٹنے یا پھلوں اور پھولوں کو قبل از وقت توڑنے یا پر باد کرنے سے منع کیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ پھلوں کو اس وقت توڑو جب خدا ان کو تمہاری روزی کے لیے تیار کر دے۔ چنانچہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں انصار کے نخلستانوں میں جایا کرتا تھا اور ڈھیلے مار کر کھجوریں گرایا کرتا تھا۔ ان میں کچی کھجوروں کا بہت نقصان ہوتا تھا ایک دفعہ باغ کے مالک نے مجھے پکڑ لیا اور خدمت اقدس میں لے گیا۔ آپ نے کہا پیڑوں کو نہ ستایا کرو۔ زمین بڑی ٹھیک ہوئی کھا لیا کرو۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ یہودی جس قدر شقی اور اسلام کے دشمن تھے اس کا حال کسی سے چھپا نہیں وہ کون سی ایذا و تکلیف ایسی ہے جو اس قوم نے آنحضرت کے لئے اٹھا رکھی۔

لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ رحمانہ برتاؤ کیا۔ انھیں اپنے بہاں مہمان رکھا، ان کا قرض ادا کیا، ان کی ضرورتیں پوری کیں اور ان کی شرارتوں سے درگزر کیا۔ صحابہ نے جب کبھی کہا کہ "یا رسول اللہ یہ تو دشمن دین ہیں اور آپ کے جانی دشمن" آپ نے فرمایا کہ ان کی پیشانی خود ہی خاک سے بھری ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ "مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیتا تھا ایک دفعہ کھجوروں کا قرضہ ہو گیا اور اس سال کھجوریں نہیں پھلیں میں نے یہودی سے مہلت مانگی لیکن وہ کب مہلت دینے والا تھا! اس نے سخت سخت تقاضے شروع کیے۔ میں پریشان ہو کر خدمت اقدس میں آیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آنحضرتؐ یہودی کے گھر گئے اور مجھے مہلت دینے کی درخواست کی۔ یہودی نے کہا میں ہرگز مہلت نہیں دوں گا، یہ جہاں سے پیدا کرے میری کھجوریں مجھے دے، آخر رسول اللہؐ مجھ کو ساتھ لے کر میرے نخلستان میں گئے اور کہا کہ خدا کا نام لے کر کھجوریں توڑو۔ میں حیران تھا کہ کھجوریں پھلی ہیں نہیں قرض کی ڈھیری ادا کرنے کے لئے کہاں سے آئیں گی! لیکن خدا کی رحمت اور آنحضرتؐ کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ قرض ادا کر کے بچ رہیں!"

مجلس نبوی میں نہ تو فرش فروش تھے نہ مسند و قالین تہاہم کبھی کبھی کھجور کی چند چٹائیاں فرش کا کام دیتی تھیں۔ ان پر لوگ آکر بیٹھ جاتے جگہ بھر جاتی اس کے بعد اگر کوئی آجاتا تو آپ اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ مجلس نبوی میں حاضر تھے

کہ ایک ضعیف عورت آئی۔ آپ اُسے دیکھ کر فرط محبت سے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اُس کے لئے بچھائی۔ صحابی نے لوگوں سے پوچھا یہ کون عورت ہیں تو معلوم ہوا آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں صَلَّى اللهُ تَعَالَى حَبِيبُ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو ذر جو مشہور صحابی گذرے ہیں ایک دفعہ بہت دنوں کے بعد خدمت اقدس میں آئے۔ اُس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے محبت سے انھیں گلے لگایا اور پیشانی کو جو ماہدینہ میں یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب کوئی مسلمان مرتا تو جنازہ نماز اور دعائے مغفرت کے لئے آنحضرت کے پاس لایا جاتا آپ تمام صحابیوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھاتے اور جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جاتے۔ نماز سے پہلے دریافت فرماتے کہ میت پر کسی کا قرض تو نہیں ہے اگر ہوتا تو میت کے وارثوں سے ادا کرنے کو کہتے وارث اگر تادار ہوتے تو اپنے پاس جو کچھ ہوتا وہی اسکی طرف سے قرضخواہ کو دیدیتے قرض دینے والوں میں زیادہ تر یہودی ہوتے تھے وہ اپنا قرض مع سود کے مانگتے اور ایک درہم بھی معاف نہ کرتے اس لیے آپ مالدار صحابہ سے کہتے کہ

”اپنے مرنے والے بھائی کا بوجھ اُتار دو خدا تم پر بوجھ نہ ڈالے گا“

اگر کوئی انسان دنیا کو چھوڑ کر پہاڑ کی گوبھا میں بیٹھ جائے یا ایشی جان کو بیوی بچوں، عزیز زواقرباء، بھائی

بہن کی محبت میں نہ پھنسنے دے تو اس کے لیے انصاف سے کام لینا آسان معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب اُسے خود کسی سے ذاتی تعلق نہیں تو امید کی جاسکتی ہے کہ وہ

ہر ایک کے حق میں یکساں فیصلہ کرے گا۔ لیکن آنحضرت صلعم کی شخصیت تمام ممکن مشکلات و دنیوی الجھنوں کے ذمیان نظر آتی ہے آپ ایک شفیق باپ فرض شناس شوہر، پکے دوست، ہمدرد قرابت دار اور اسکے ساتھ ایک پیشوا کے مذہب تھے مذہب کی اشاعت آپ کا فرض اولین تھا اور اس بنا پر آپ کے پیروؤں کے ساتھ جس قدر مراعات کی جاتیں اسی قدر زیادہ وہ خلقہ اسلام میں داخل ہوتے۔ اگر انھیں یہ بتایا جاتا کہ ان کے عام گناہوں کا کفارہ صرف اقرار اسلام ہے اور جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو پھر اس کو خطاؤں کی کوئی سزا نہ دی جائے گی تو چند ہی روز میں سارا عرب اقرار توحید کر لیتا لیکن پیغمبر اسلام کے عدل و انصاف کی ہزار ہا مثالوں میں سے یہاں صرف دو مثالوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت جو خاندان مخزوم سے تھی یہ عرب کا بہت اونچا اور شریف و نجیب گھرانہ تھا، چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ لوگوں نے چاہا کہ اس عورت کی چوری کا معاملہ چھپا لیا جائے اور اسے سزا نہ دی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کی منشاء کا اظہار کیا آپ کے چہرے سے ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم اسی لئے تباہ ہوئی کہ وہ غریبوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو بچا لیتے تھے قسم ہے خدا کے عادل کی اگر محمد کی بیٹی فاطمہ اور پھوپھی صفیہ بھی چوری کرتیں تو قانون الہی کی سزا سے نہ بچ سکتیں۔ خود اپنی وفات سے چند روز قبل جب آپ اس عالم فانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والے تھے بھرے مجمع میں اعلان عام کیا کہ اگر میرے ذمہ کسی کا قرض ہو، میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو، تو وہ میری

جان و مال سے انتقام لے لے اور مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ اسی دنیا میں کرے
 مجمع میں ایک سناٹا تھا لیکن سیکڑوں آنکھیں زار و قطار رو رہی تھیں۔ اللہم
 صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ شَفِّعِنَا وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ

اگر انسان کے پاس مال و دولت کی افراط ہو اور اس میں سے وہ
سخاوت کسی کو کچھ دیکھے تو مشکل نہیں لیکن اصل سخاوت وہ ہے کہ

جب انسان خود بے سرو سامان ہو۔ کپڑوں میں پیوند ہوں، بھوک میں پیٹ پر تھپڑ
 بندھے ہوں، اہل و عیال پر فاقہ ہو اس وقت کسی کے سوال پر نہیں، نہ کہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے ماہ رمضان
 میں آپ زیادہ سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اکثر کہا کرتے اِنَّمَا اَنَا قَائِمٌ

وَ خَائِرٌ وَ اللّٰهُ يُعْطِينِي (بخاری) میں تو صرف بانٹنے والا ہوں اور خازن ہوں،
 دیتا اللہ ہے۔ آپ کا کھانا ہمیشہ موٹا جھوٹا ہوتا یہ بھی کسی کسی فاقوں کے بعد

میسر آتا۔ عمدہ غذا یا کپڑا آپ کے پاس وہی آتا جو صحابہ تحائف کی صورت میں
 بھیجتے تھے لیکن آپ عمدہ چیزوں کے استعمال سے ہمیشہ پرہیز کرتے

ان میں سے اسقدر قبول کرتے کہ دینے والے کی خوشی ہو جائے اور سب کا سب
 صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ اپنا روکھا سوکھا کھانا بھی تنہا نہ کھاتے۔ اپنا گھر ہو یا

دوسرے کا جتنے لوگ موجود ہوتے سب کو شریک کرتے تھے مدینہ پہنچ کر اسلام
 نے جو ترقی کی اس کا حال اظہر من الشمس ہے۔ اب وہ وقت گزر چکا تھا جب چند

غریب منتشر لوگ ایمان کی دولت سے بالامال ہوئے تھے، اب اسلام کا دائرہ رو
 بروز وسیع ہو رہا تھا، طاقت و حکومت، زر و مال کی فراوانی تھی۔ طاقت اور

مدینہ کے رئیس شام میں سکے تجار، خیبر و بحرین کے حاکم، خراج گزار و فرمانبردار ہو چکے تھے کثیر قبیل دار الاسلام میں وصول ہو رہی تھیں لیکن آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں مخالف دنیا صرف ایک فاتح کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، یہ حال تھا کہ جو چیز پاس آتی جب تک وہ صرف نہ ہو جاتی آپ کو چین نہ آتا حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں آنحضرت کے ہمراہ احد کی پہاڑی سے گزر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر اُحد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تب بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ تین دن سے زیادہ میرے پاس رہے۔ اسلامی فتوحات میں جب سونے اور چاندی کے سکے آتے آپ کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوتے تھے صحابہ سے کہہ کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اور یواؤں کی امداد میں صرف کر دیتے۔ ایک بار آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے آئیں آپ کا معمول تھا جب وہ آئیں تو آپ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے آج حضرت فاطمہ کے گلے میں ایک صحابیہ کا ہدیہ دیا ہوا سونے کا ہار تھا، جوں ہی آپ کی نظر ہار پر پڑی چہرہ اقدس پر کراہت کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا "اے فاطمہ! کیا تم یہ پسند کرو گی کہ پیغمبر کی بیٹی ہو کر گلے میں آگ لپیٹو، جاؤ جلد اس ہار کو خیرات کر دو" حضرت فاطمہ کب گوارا کر سکتی تھیں کہ حکم بجالانے میں تاخیر ہو اسی وقت گئیں اور بندہ کے یتیموں کو ہار دے کر خدمت اقدس میں واپس آئیں۔ آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور عادی۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر جو کرشمہ ہے وہ تمام بیوندوں سے ڈھکا ہے۔ فوراً اپنی چادر

اتار کر پیش کی، آنحضرتؐ نے صحابہ کا ہدیہ لے لیا اسی وقت ایک صحابی نے آپ سے وہ چادر مانگی آپ نے ان کو دیدی۔ اس پر لوگوں نے صحابی کو طاعت کی کہ تم دیکھتے تھے کہ آنحضرتؐ کو کرتہ کی ضرورت ہے پھر بھی تم نے آپ سے چادر لے لی صحابی نے کہا "میں نے رسول اللہ کو ہدیہ ملی ہوئی چادر اس لئے حاصل کی ہے کہ جب میں مروں تو مجھے اسی کا کفن دیا جائے" آپ کے صحابیوں میں ایک نوجوان تھے انہوں نے شادی کی دعوت ولیمہ کے لئے ان کے پاس کچھ نہ تھا، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا "عائشہ کے حجرے میں جاؤ وہاں جو کچھ ہوئے" حضرت عائشہ نے ایک ٹوکری دی جس میں تھوڑا سا آٹا تھا اس کے علاوہ بنی کے گھر میں اس روز کھانے کے لئے کچھ نہ تھا۔

رسول خدا کا ایثار

رسول اللہ کے قبضہ میں لیت تھی نہ ثروت تھی نہ اس باطل کہ میں انکو دنیا کی ضرورت تھی قناعت پر گزارہ تھا تو کل پر بھروسہ تھا شہنشاہِ دو عالم تھی اور سیر بھی حالت تھی صحابی کے یہاں ٹوکری کے آٹے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ساری بارات نے سیر ہو کر کھایا لیکن آنحضرتؐ کا کنبہ فاقہ سے رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے پہلے کی رات میں بھی فاقہ ہی تھا۔ آنحضرتؐ صلعم کی فیاضی و سخاوت کے واقعات سے سیرت کی مستند کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ کے دستِ کرم سے مسلم اور غیر مسلم کیساں فیض اٹھاتے تھے آپ کی ہمان نوازی میں مومن و مشرک کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ حدیث شریف میں ایک یہودی کا مشہور واقعہ لکھا

ہے کہ وہ اپنا نچر آستین میں چھپا کر آیا اور ایک غریب مسافر بن کر خانہ نبوی میں مہمان رہا۔ آنحضرتؐ نے جو کچھ میسر تھا اسے کھلایا اور اپنے برابر لٹایا جب آپؐ حسب معمول رات کو اٹھ کر مسجد نبوی میں عبادت کے لیے جانے لگے یہودی بھی ساتھ ہو لیا تاکہ مسجد کی تنہائی میں آپؐ کو قتل کر کے بھاگ جائے۔ آپؐ سجدہ میں جاتے ہیں اور یہودی کے کانوں میں دعا کی یہ آواز آتی ہے "خدا یا! اگر میں حق پر ہوں تو مجھے اس یہودی کی شرارت سے بچا اور اس کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ کیا کر رہا ہے" آپؐ کی دعا کا یہودی پر یہ اثر ہوا کہ اسی وقت اپنے گناہ کا اقبال کیا اور کلمہ توحید پڑھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں جب آپؐ نے اشاعت اسلام شروع کی اس وقت سے ہجرت کے دن تک قریش نے آپؐ پر اور ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے جیسے مظالم ڈھائے ان سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے اس وقت آپؐ کے صحابیوں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! یہ لوگ خدا کے منکر ہیں اور دین حق کے دشمن ان کے حق میں بد بکھجے کہ یہ قوم ہی برباد ہو جائے" یہ سن کر آپؐ نے فرمایا "میں دنیا کے لئے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں"۔

عفو و درگزر | جانی دشمنوں اور اپنے قاتلوں کو چھوڑ دینے کی اجازت کوئی قانون نہیں دیتا اور نہ کسی انسان کا دل اپنے

جانی دشمن کو معاف کر دینے کو چاہتا ہے۔ ان موقعوں پر عفو و درگزر کی زندہ مثالیں پیغمبروں کے اخلاق کے سوا اور کہاں مل سکتی ہیں۔ عمیر بن وہب جو قریش کے اشقیاء میں سب کا اٹھا بیٹھا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے سارا قبیلہ

قریش بے چین تھا۔ اُس وقت معنوان بن امیہ نے عمیر ہی کو زروزین کے بڑے انعام کا وعدہ کر کے مدینہ بھیجا تھا کہ کسی طرح محمد رسول اللہ کو قتل کر آئے۔ یہ اپنی تلوار زہر میں بچھا کر مدینہ پہنچا۔ فاتح بدر کے دروازہ پر نہ پہرہ دار تھے اور نہ کوئی روک ٹوک۔ مسجد نبوی کا کھلا صحن تھا اور آپ مشغول عبادت۔ عمیر کو قریب پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی لیکن ایک طاقت غیبی تھی کہ اس نے وار کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے قریب بٹھا کر اُس کو اُس کے ناپاک ارادہ سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ عمیر سناٹے میں تھا۔ آپ نے اسے نیکی کی ہدایت کی اور معاف کیا۔ وہ اُسی وقت ایمان لایا، واپس کہ جا کر تمام عمر اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ اور حضرت عمیر بن وہب کا لقب پایا۔ وہ قریش جنہوں نے آپ کی نئی زندگی کو آلام و مصائب کا شکار بنا دیا تھا، کون سی طریقہ تھا جو آپ کو ستانے کے لئے اختیار نہ کیا تھا، گردن میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا، جسم اطہر پر نجاستوں کے انبار ڈالے، سر مبارک کو پتھروں سے اہولمان کیا، راہ چلتے پیروں کو کانٹوں سے زخمی کیا تین برس تک محصور رکھا، دانہ پانی بند کر دیا، جنگ احد میں تیر برسائے، دندان مبارک شہید کیے ان تمام مظالم کے لیے آپ نے ظالموں کے حق میں یہ دعا کی۔ **اللَّهُمَّ بِهَذَا تَوْحِيٍّ يَا تَهْمُ لَا يَغْلِبُونَ**۔ خدا یا ان کو معاف کر کہ یہ نادان ہیں۔ **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ**۔

آنحضرت صلعم کے دل میں انسانوں ہی کے
بے زبانوں پر رحم و کرم | لیے رحم و کرم نہ تھا بلکہ حیوانوں پر بھی

آپ اسی قدر مہربان تھے۔ مذہب اسلام نے گوچند پاک جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے اور ان کا گوشت غذا کے لئے حلال کر دیا ہے لیکن آنحضرت صلعم نے ان بے زبانوں کو ستانے، ان پر ظلم کرنے، بھوکا پیاسا رکھنے یا تفریح کے لیے ان کا شکار کرنے کی سخت ممانعت فرمائی۔ بلکہ جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ لادنے اور سواری لینے کو بھی منع فرمایا۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ کرنے کو گناہ قرار دیا عرب میں دستور تھا کہ پالتو جانور جب بیکار ہو جاتے تو انھیں بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے یا جنگلوں میں چھوڑ آتے تاکہ بھوک و پیاس سے مر کر ختم ہو جائیں شوقین مزاج عرب کسی جانور کو سامنے باندھ کر تیروں سے نشانہ بناتے اور اس طرح تیر اندازی کی مشق کرتے تھے آنحضرت نے قانوناً اس سنگدلی کو روکا۔ آپ خود حیوانات پر اس درجہ رحم فرماتے اور ان سے اتنی محبت کرتے کہ کوئی جانور آپ سے ڈر مانہ تھا۔ حدیث شریف میں آپ کی نسبت ایسے بہت واقعات مذکور ہیں کہ جب آپ سفر میں رگیٹانوں سے گزرتے تو جنگلی جانور آپ کے قریب آجاتے ان واقعات کو معجزوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔

چونکہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بوٹھی غلاموں پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے آنحضرت

غلاموں پر شفقت

نے خصوصیت کے ساتھ غلاموں پر شفقت فرمائی جو لوگ مسلمان ہو جاتے آپ ان کو ہدایت کرتے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیں یا بھر جو خود کھائیں انھیں بھی کھلائیں جو خود پہنیں انھیں بھی پہنائیں۔ آنحضرت کی ملکیت میں جو غلام

آتے آپ انھیں آزاد فرمادیتے لیکن آپ کے آزاد کردہ وہ غلام غلامی سے ضرور آزاد ہو جاتے لیکن آپ کے رشتہ محبت اور ہمدردی سے کبھی آزاد نہ ہوتے تھے زید بن حارثہ ایک ایسے ہی غلام تھے جن کو آنحضرتؐ نے آزاد کیا تھا لیکن جب زید کے باپ انھیں لینے آئے تو انھوں نے قطعاً جانے سے انکار کر دیا اور تمام عمر رسول اللہ کے قدموں میں گزار دی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کوئی "غلام" یا "باندی" کہہ نہ سکا اس سے انسان کی توہین ہوتی ہے۔ غلام بھی اپنے آقا کو "خداوند" کہہ نہ سکا اس خداوند صرف خدا ہے! آپ کو غلاموں کی اس قدر دلجوئی اور عزت منظور تھی کہ وفات کے وقت جو آخری خطبہ یا اس میں امت محمدی کو آخری وصیت میں یہ فرمایا کہ "لوگو! غلاموں کے معاملہ میں اپنے خدا سے ڈرو!"

تعزیت عیاد | یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے کہ آج تک بیمار کی عیادت کو جانا ہر مسلمان کے لئے ایک

فرض ہے۔ آنحضرتؐ کا معمول تھا کہ بیماروں کو دیکھنے جاتے اس میں دوست و دشمن، مومن و مشرک کا کوئی فرق نہ تھا۔ آپ جس کسی بیمار کی خبر پاتے عیادت کو تشریف لے جاتے اور مریض کی صحت کے لئے دعا کرتے۔ سنن نسائی میں لکھا ہے کان النبی صلعم احسن شیء عیادۃ المریض آنحضرت صلعم بیمار کی عیادت کا خیال بہت اچھی طرح رکھا کرتے تھے، یہی حال تعزیت کا بھی تھا کسی کے مرنے کی خبر آتی آپ فوراً تشریف لے جاتے۔ نماز جنازہ پڑھاتے دعائے مغفرت کرتے اور جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جاتے۔ مدینہ میں جب

کسی یہودی یا نصرانی کا جنازہ سامنے سے جاتا ہوتا آپ فوراً کھڑے ہو جاتے
اکثر چالیس قدم ساتھ چلتے اور صحابہ کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے بیت پر
اتم کرنے اور رونے پٹینے بین کرنے کو آپ نے منع فرمایا۔ غم کو صبر کے ساتھ
برداشت کرنے کی نصیحت کی۔ **مَنْ لَّهِ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ**

الکیرام ۵

حُسنِ سلوک آنحضرتؐ اپنے دوستوں اور بڑوسیوں کو بچہ عزیز

گھروں میں تشریف لے جاتے ان کے کام کرتے آپ دوسروں سے چیزیں لینا
پسند نہ کرتے تھے لیکن دوست احباب اگر کچھ تحفہ بھیجتے تو آپ ضرور قبول
فرماتے۔ خود کو جو کچھ میسر ہوتا اس میں سے اپنے دوستوں کو بھیجتے آپ نے
تحفہ تحائف دینے لینے کو میل جول بڑھانے کا ذریعہ فرمایا:-

تَحَادُّوْا لِحَابِلِیْ (حدیث) ایک دوسرے کو ہینہ بھجو آپس میں محبت ہوگی۔

طہر و بیوسوں سا بڑو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات
میں بڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا مسلمان

کے ایمان کا جز قرار دیا۔ اور قرآن شریف کے اس حکم کی پوری تائید فرمائی۔

وَالتَّجَارِذِی الْقُرْبٰنِی وَالتَّجَارِی الْجَنْبِی وَالصَّاحِبِی الْجَنْبِی (ترجمہ) اور مہسابہ

قریب اور مہسابہ غیر اور برابر رہنے والے کے ساتھ نیکی کرو (نساء۔ ۶) قرآن

شریف کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بڑوسی خواہ اپنا رشتہ دار ہو

یا غیر ہم مذہب ہو یا غیر مذہب، لیکن سب مہاسبگی کے حق میں برابر ہیں۔

چنانچہ آنحضرتؐ کی تعلیم کا نشانہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کو ستانا ان کی تکلیف میں کام
 نہ آنا، انکی عزت و آبرو کے درپے ہونا مومن ہونے کے منافی ہے۔ کئی موقوفوں
 پر صحابہ نے زبان مبارک سے یہ الفاظ منئے: "خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا" صحابہ نے
 نے پوچھا: "کون یا رسول اللہ؟" فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی خیراتوں سے
 نہیں بچتا، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے
 ان سے فرمایا کہ "جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حق میں اتنا زور دیتے تھے کہ
 میں نے سمجھا کہ شاید وہ وراثت میں حق دلانا چاہتے ہیں" ہمسایوں کے
 ساتھ خوشگوار تعلقات کا قائم ہونا موقوفوں پر زیادہ منحصر ہے اس لیے آپ
 نے خصوصیت کے ساتھ موقوفوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے مسلمانوں کی بریوں
 تم میں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے حقیر چیز نہ سمجھے چاہے وہ بکری کی
 ایک کھری اسی کیوں نہ ہو، یہ نصیحت دونوں پڑوسنوں کے لیے ہے یعنی
 بھینے والی معمولی سے معمولی چیز بھی اپنی پڑوسن کو نیچے اور جس کو نیچے
 وہ اس تحفہ کو حقیر نہ سمجھے چیز کا نہیں بلکہ بھینے والی کی محبت کا خیال کرے
 آنحضرتؐ سے پہلے دوسرے پیغمبروں نے بھی اپنی تعلیمات میں پڑوسی کے
 حقوق پر بہت زور دیا ہے لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے قبل کی تعلیمات کی اس
 طرح تکمیل فرمائی کہ بھلی نصیحتوں کو دس گنا زیادہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا "پڑوسی
 کے ساتھ جو برائی کی جائیگی وہ اس گناہ سے دس گنا زیادہ ہوگی جو دوسری
 جگہ سرزد ہو۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ بدکاری حرام ہے خدا و رسول نے
 اس کو حرام کیا لیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کر وہ بدکاری ہے جو کوئی اپنے

پڑوسی کے گھر میں گرسے۔ چوری حرام ہے خدا و رسول نے اس کو حرام کیا لیکن دس
 پوریوں سے بڑھ کر وہ چوری ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر میں کی جائے۔ روایت
 میں ہے کہ دو صحابہ تھیں جو رات بھر نمازیں پڑھا کرتے اور دن بھر روزہ رکھا
 کرتے صدقہ دیتے، خیرات کرتے لیکن زبان دراز تھیں، زبان سے پڑوسیوں
 کے دل دکھایا کرتی تھیں۔ ایک دن صحابہ نے ان کا حال آنحضرتؐ کو سنایا تو
 فرمایا: "اُن میں کوئی نیکی نہیں انھیں اُن کی عبادت کا بدلہ نہیں ملے گا۔" پھر
 صحابہ نے ایک دوسری بیوی کے متعلق پوچھا جو نماز و روزہ کا صرف فریضہ ادا
 کر لیتی تھیں مگر اُن کے سلوک سے اُن کے تمام پڑوسی خوش تھے آپؐ نے
 فرمایا: "یہ جنتی بیوی ہے، آپؐ کی ان نصیحتوں کا یہ اثر ہوا کہ آپؐ کے صحابہ
 کے دلوں سے شریف و رذیل، امیر و غریب، مسلمان و غیر مسلمان پڑوسی
 کا فرق مٹ گیا اور مدینہ کے مسلمان اپنے یہودی و نصرانی پڑوسیوں کے ساتھ
 وہی سلوک کرنے لگے جو مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ؕ

بچوں کی شفقت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بید محبت
 تھی، آپ بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔

بچے مسلمان ہوں یا غیر مسلم آپؐ راہ چلنے سب کے سروں پر ہاتھ پھیرتے
 اور انھیں دعا دیتے تھے۔ گود میں اٹھا کر اُن کی پیشانی پر بوسہ دیتے اکثر
 اپنے کاندھے پر بٹھالیتے آپؐ کی مہربوت سے بچے کھیلا کرتے تھے۔ جب
 صحابہ میں کوئی چیز تقسیم کرتے اور اُن میں بچے ہوتے تو پہلے بچوں سے شروع

کرتے سب سے چھوٹے بچے کو سب سے پہلے دیتے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک سیاہ چادر تھوڑی تھی۔ آپ نے خالد بن سعید کی چھوٹی لڑکی کو بلا کر اوڑھایا اور دو دفعہ فرمایا "اور رضا اور پرانی کرنا" حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ کا کرم و شہقت لڑکیوں پر زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا "جس کو خدا نے اولاد میں لڑکیاں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا" حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ "جب میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دیر میں ختم کروں گا لیکن جب کسی صفت سے بچہ کے رٹنے کی آواز آتی ہے تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اُسکی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی" آپ نے فرمایا کہ دوسری قوموں کے لوگ اپنے معصوم بچوں کو اپنے مذہب کا پورا حقدار نہیں مانتے اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو انھیں پورا دیندار بنانے کے لیے رسمیں ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام ہے جو معصوم بچوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولے ہے "ایک بار آپ راستہ میں بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بدو آیا اس نے کہا "آپ غیروں کے بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں پیار کیا" آپ نے فرمایا "اگر خدا تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لئے
اولاد سے محبت
 اپنی اولاد سے محبت کرنا اس کا مذہبی و اخلاقی

فرض قرار دیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ اولاد کی محبت ایسی

بھی نہ ہونا چاہیے کہ اُن کی خاطر انسان گناہ کرنے۔ آپ کو اپنی صاحبزادی
 حضرت فاطمہ زہرا سے جس درجہ محبت تھی وہ مشہور ہے۔ آپ جب سفر
 پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے اور جب سفر
 سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ ہی کے پاس تشریف لے جاتے
 تھے حضرت فاطمہ جب آپ کے پاس آتیں تو آپ فرط محبت سے کھڑے
 ہو جاتے اُن کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور انھیں اپنی جگہ ٹھہراتے تھے۔
 آپ کو اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام سے بحد
 محبت تھی۔ آپ انھیں اپنی بیٹی پر سوار کرتے اُن کے سروں پر ہاتھ پھیرتے
 انھیں چومتے اور نماز میں بھی ہمراہ رکھتے تھے۔ آپ کے اپنے صاحبزادہ
 حضرت ابراہیم مدینہ سے چار میل دور عوالی میں پرورش پاتے تھے۔ آپ انھیں
 دیکھنے پیدل جاتے اور انھیں دیکھ کر دعائیں دیتے۔ حدیث شریف میں آیا
 ہے کہ آنحضرت صلعم اکثر حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے پر بھی بوسہ دیتے
 تھے اور فرماتے "حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں" امام حسین علیہ السلام
 کو دیکھ کر آپ یہ دعا بھی کرتے "خدا یا میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو کبھی رکھ
 حضرت ابراہیم، آپ کے صاحبزادہ کا جو عوالی میں پرورش پاتے تھے، بچپن
 ہی میں انتقال ہوا۔ آپ اُن کی میت پر تشریف لے گئے۔ محبت پدری سے
 ابدیدہ ہو کر فرمایا: "دل غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں لیکن منہ وہی کہے گا
 جو خدا کی مرضی ہے" یہ محبت صرف اپنی اولاد کے ساتھ نہ تھی بلکہ آپ
 کے دل میں عموماً بچوں کے لیے اُنس تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی دوسرے

بچوں پر ترجیح نہیں دی نہ ان کے کھانے اور پہننے میں کبھی کوئی امتیاز
 گوارا کیا۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوہ سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت
 فاطمہؑ نے حسنین علیہم السلام کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنا دیے ہیں
 اور اپنے گھر کی دیواروں پر پردے لٹکائے ہیں۔ آپ خلاف معمول اس روز
 حضرت فاطمہؑ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور فرمایا "پیغمبروں کے بچوں کو
 عیش کے سامان سے کیا واسطہ" حضرت فاطمہؑ نے اسی وقت کنگن اور پردے
 اتار کر خیرات کر دیے۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام
 سرخ کرتہ پہنے سامنے آئے! حضرت نے حضرت فاطمہؑ کو کہلا بھیجا کہ لوگوں
 کو سرخ رنگ کا کپڑا پہنایا کریں۔ عام طور پر آپ کو یہ رنگ مردوں کے لئے
 ناپسند تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی سرخ رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت
 کی اور فرمایا "خدا نہیں چاہتا کہ یہ رنگ تم پر چھا جائے"

اس امر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت
 کی کمزور ہستی ہمیشہ دنیا میں ذلیل و خوار سمجھی

عورتوں کے سلوک

گئی۔ انسانی سوسائٹی میں عورت کے حقوق کیا تھے! اور مردوں کے مقابلہ میں
 عورتوں کا کتنا رتبہ تھا! اس کا تو ذکر ہی کیا ہے کسی روحانی رہنما نے کبھی
 "سنت ضعیفہ" کو اس کا جائز حق دینے کی کوشش نہیں کی چنانچہ دنیا کے کسی
 نامور شخص کے حالات سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ خود اس کا طرز معاشرت عورت
 کے ساتھ کبھی اعتدال پر رہا۔ آج دنیا میں جتنے روحانی صحیفے موجود ہیں
 ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے معاملہ میں کبھی افراط و کبھی تفریط

یہی بلکہ زیادہ تر روحانی مصلحین نے اس مجبور ہستی سے اپنا دامن بچا کر رکھا کسی نے گناہ کی ماں کو بچا کر کسی نے مرد کے زوال کا باعث عورت کو قرار دیا اور اپنے زہر و تقویٰ کے لئے اس کو ایک خطرہ عظیم خیال کیا۔ عورت کی اگر کچھ عزت تھی تو وہ صرف ماں کی حیثیت سے ہوتی تھی۔ مگر اس بد نصیب کی ذلت و خواری اپنے اٹلی روپ میں اس وقت نظر آتی ہے جب یہ بیچاری بیوی کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔

اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے اس محکوم طبقہ کی دادرسی کی اور عورتوں کے حقوق میں اعتدال قائم کیا۔ حق آزادی میں مردوں کے برابر جگہ دی۔ باپ و شوہر سے ورثہ دلوا یا معاشرتی زندگی میں وہ عزت دلائی جس کی وہ مستحق تھیں۔ دینی معاملات میں مردوں اور عورتوں کا درجہ برابر رکھا بلکہ عورتوں کی عبادت کو مردوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں ہم لوگ اپنی عورتوں کو بالکل ذلیل سمجھا کرتے تھے لیکن مدینہ میں آکر کچھ زیادہ قدر کرنے لگے لیکن قرآن کے احکام اور رسول اللہ کے ارشادات سے تو عورتوں کی کایا ہی پلٹ گئی، رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ ایمان والے اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ سختی کرنا گناہ سمجھنے لگے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مستورات کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ایک بچی سے لے کر بوڑھی عورت تک کی برابر عزت کرتے تھے۔ آپ کے گرد صحابہ جمع رہتے تھے عورتوں کو و غطا و بندہ سننے کا نام موقع بتاتا تھا۔ ایسے آپ نے ایک دن خاص عورتوں کے لیے مقرر کر دیا۔ یا اہل روز عورتیں

گروہ درگروہ دربار نبوی میں حاضر ہوئیں اور بڑی آزادی کے ساتھ مسائل پوچھتی تھیں۔ صحابہ کو عورتوں کی جسارت پر تعجب ہوتا۔ آنحضرت صلعم فرماتے "اُن کا حق خدا و رسول پر تم سے زیادہ ہے۔"

حضرت انس کی ماں ام سلیم سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ اُن کے گھر جاتے وہ پچھونا بچھا دیتیں آپ آرام کرتے وہ آپ کے پسینہ کو ایک چادر سے پوچھا کرتیں مرتے وقت وصیت کی کہ اُن کو اسی چادر کا کفن دیا جائے۔ مدینہ میں ایک صحابیہ رہتی تھیں یہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھیں۔ ایک روز آنحضرت کی خدمت میں آئیں اور کہا، "یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے۔" آپ نے فرمایا "اگر آخرت چاہتی ہو تو صبر کرو مرض کی تکلیف برداشت کرو۔" صحابیہ نے کہا "مرگی کی حالت میں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں" آنحضرت صلعم کو عورتوں کی بے پردگی گوارا نہ تھی اس لیے آپ نے ان کی صحت و مغفرت دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا جس میں دین اسلام اور اس کی تمام شریعت کی تکمیل کا اعلان عام کیا اس میں جو آخری نصیحت امت محمدی کو فرمائی وہ یہ تھی :- "اے لوگو عورتوں کے معاملہ میں اس پر غور کرو اور تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔"

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا سب سے زیادہ روشن و کامل وہ حصہ ہے جس سے آپ نے

مراج میں ساگی

عاجزی و انکساری کی عملی مثال امت کے لیے قائم کی۔ آپ کی زبان مبارک سے آپ کی امت نے خدا کا حکم سنا "وَلَا تَمْسِیْ فِی الْاَرْضِ ضَرْحًا۔" اور

زمین پر اکر کر نہ چل! لیکن اس حکم پر ذات اقدس کے سوا اور کس نے عمل کر کے دکھایا!۔ امیر مینائی نے خوب فرمایا۔

نعت

خلق کے سرور شافع عشر صلی اللہ علیہ وسلم
 نور مجسم نیز اعظم سرور عالم مونس آدم
 نوح کے ہدم خضر کی رہبری صلی اللہ علیہ وسلم
 مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم
 ہاتھ کا تیکہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم
 سب عیان ہیں آپ کے جوہر صلی اللہ علیہ وسلم
 خرقہ جہاں عرش لہاں ہیں زباں ہیں
 رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک نیا مالک عقیلی
 میکا شاہ شہا سیف ہیں زباں ہیں

ہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر ہے اپنا پیشہ

ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔

جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو غزوہ بدر کے بعد سارا عرب آپ کا زیر نگین تھا۔ مغرور حکمران خراج گزار اور قبضہ کسریٰ مطیع و فرمانبردار تھے۔ ہر طرف فتح و نصرت کا دور دورہ تھا۔ باطل کی طاقتیں ٹوٹ چکی تھیں اور اب دشمنان دین کو داعی حق کی عظمت و بزرگی کا یقین ہو گیا تھا لیکن پیغمبر اسلام کے مزاج میں اس شادمانی و کامرانی نے ذرہ برابر فرق پیدا نہیں کیا۔ آپ کے نزدیک اسلام کی فتح خدا کے جل شانہ کا احسان تھی ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ شاہنشاہ عرب پیوند دار کپڑے پہنے، برہنہ پا مدینہ کی گلیوں میں غلاموں اور مسکینوں کی مدد کرتا نظر آتا ہے۔ وہ تاج و تخت

سے بے نیاز، قسروایوان سے مستغنی، مال و زر سے خالی، شان و شوکت کے بغیر دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بسر کی آپ کے کپڑوں پر کئی بیوند ہوتے تھے۔ بستر میں ایک کبیل استعمال کرتے کبھی چٹائی اور کبھی خاک تہی کا بستر پسند فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ نے آپ کے لئے دو ہرا کبیل پچھا دیا۔ آپ نے یہ کہہ کر کہ "خدا کے بندوں کے خادم کو نرم بستر پر نہیں سونا چاہیے" کبیل اکرا کر لیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ "رسول اللہ کا کپڑا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا گیا" اس کے معنی ہیں کہ آپ کے پاس ایک جوڑے کے سوا دوسرا ہوتا ہی نہ تھا کہ تہہ کر کے رکھا جاتا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے انھیں ایک کرتہ اور ایک تہبند نکال کر دکھایا اور کہا کہ رسول اللہ نے انھیں کپڑوں میں وفات پائی اور یہی کپڑے ترکہ میں چھوڑے۔ اطراف کے مفتوح حاکم اکثر آپ کو دیا و حریر کے قیمتی کپڑے ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ مصر و شام و حبشہ کے وفود اپنے ساتھ سونا چاندی اور خوشبوئیں بطور تحفہ لاتے آپ خوشی اور تشکر کے ساتھ ہدایا قبول فرماتے لیکن کبھی یہ چیزیں آپ کے یا اہلبیت کے استعمال میں نہ آتیں وہ یہ سب عام مسلمانوں کی امداد کے کاموں میں صرف کر دی جاتیں۔ آپ صحابہ کو اپنے اوپنے مکانات بنوانے کو بھی منع فرماتے تھے۔ ارشاد تھا کہ "اوپنچا گھر صرف خدا کا ہے" آپ کا کھانا نہایت موٹا جھوٹا ہوتا تھا۔ وہ بھی زندگی بھر کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔ متصل کسی کوئی روز فاقے ہوتے تھے کبھی کھجوروں اور بکریوں کے دودھ ہی

برگزر ہوتی۔ اگر کوئی مہمان یا سائل آجاتا تو گھر میں جو کچھ ہوتا اس کو دیدیا جاتا اور نبی کا گھر فاقہ سے رہتا۔ مسجد نبوی میں رات بھر عبادت کے بعد صبح کو آپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں تشریف لے جاتے دریافت کرتے "اے عائشہؓ کچھ کھانے کو ہے؟" حضرت عائشہؓ کہتیں "یا رسول اللہ سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے" آپ کہتے "انا بارئ صوم میں روزہ سے ہوں" افطار کے وقت پھر آپ حجرہ میں جا کر پوچھتے "افطار کے لیے کچھ ہے؟" حضرت عائشہؓ کہتیں "یا رسول اللہ سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے" کبھی آپ پانی کو تین گھونٹ پی لیتے کبھی یہ بھی نہیں اور پھر روزہ کی نیت کر لیتے۔ حدیث شریف میں روایت ہے کہ اس طرح آنحضرت صلعم نے علاوہ رمضان کے فرض روزوں کے سات سات اور نو نو مسلسل روزے رکھے ہیں لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے عبادت میں اس سخت محنت کی اجازت نہیں دی بلکہ خدا کی نعمتوں سے نیکی کے ساتھ حتی المقدور فائدہ اٹھانے کی نصیحت فرمائی۔ آنحضرت صلعم اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ صحابہ کا ایک گروہ آپ کے پاس رہے اور وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ آپ نے خود اپنے صحابہ کے کام انجام دیے۔ ان کے ہاتھ پیر دھلائے، انہی نجاستیں صاف کیں ان کے بوجھ اٹھائے حضرت انس کا بیان ہے کہ میں دس دس حضور کی خدمت میں رہا، جتنا میں ان کا کام کرتا تھا اس سے زیادہ وہ میرا کام کروا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم گھر کے کام دیکھنے اپنے ہاتھوں کرتے۔ کپڑوں میں پیوند لگاتے، ہوتے

کی مرمت کر لیتے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، مسجد میں جھاڑو دیتے، بکریوں کا دودھ
 دودھ لیتے۔ دوسروں کے کام انجام دیتے، غلاموں اور مسکینوں کے کام کرتے
 یتیموں کو بانی بھر بھر کے پلانے فقیر بھی بیمار ہوتا تو اُس کی عیادت کو جاتے
 اگر کوئی آپ کی تعظیم کو اٹھ کھڑا ہوتا تو یہ کہہ کر منع فرماتے کہ "عجم والوں کی طرح
 تعظیم کو نہ اٹھو" ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے "فرمایا کہ جن
 لوگوں کو یہ پسند آتا ہے کہ لوگ اُن کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا
 کریں اُنھیں اپنا ٹھکانا آگ میں بنانا چاہیے" آپ کی گوشہ جگر حضرت
 فاطمہؓ زہرا جو آپ کو بہت عزیز تھیں ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئیں اور
 ہاتھوں کے چھالے دکھا کر گھر کے کام کاج کے لیے ایک لونڈی طلب کی
 آپ نے فرمایا "یہ حق تو بدر کے یتیموں کا ہے تمہارا نہیں ہے" ایک صحابی
 کہتے ہیں کہ ایک بار وہ آنحضرت صلعم کے ہمراہ حضرت فاطمہؓ کے یہاں گئے
 تو دیکھا کہ حضرت فاطمہؓ نے ناداری سے اس قدر چھوٹی چادر اوڑھی ہے کہ
 وہ سر چھپاتی ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر چھپاتی ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔
 آپ نے اپنی عزیز بیٹی حضرت فاطمہؓ زہرا کی شادی کی تو جو سامان جہیز
 میں دیا وہ یہ تھا۔ بستر میں ایک چمڑے کا گدّا، ایک چادر، دو چکیاں، اور
 ایک مشک، یہی دو چیزیں آخر دم تک اُن کی رفیق زندگی رہیں۔ یہ وہ
 وقت تھا جب کثیر رقمیں خراج و فد یہ میں وصول ہو رہی تھیں، دارالاسلام
 میں غلہ و کپڑے کے انبار ہوتے تھے عام مسلمانوں کی اس وقت کی حالت اور
 اُس وقت کی حالت میں جب انھوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا کر

ہجرت کی تھی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ لیکن خود خانہ بنوی کی یہ خلت تھی کہ ازواج مطہرات کے سروں پر سالم چادر بھی نہ تھی۔ کئی کئی روز متواتر چولہا نہیں سلگتا تھا راتوں کو چراغ نہیں جلتا تھا۔ بنی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے تھے۔ مشک بھر بھر کر لاتے لاتے کاندھوں پر نیل پڑ گئے تھے مسلمان بہنو! حضور اقدس آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف ہماری ہدایت کے لئے موجود ہے اور خلق محمدی کی ایک ایک مثال اخلاق و تہذیب کی بلند مایا پر پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ حکمت ربانی کے اس سرچشمہ نور کی دھندلی سی کرن بھی ہمیں جلائیے کیلئے کافی ہے۔ پھر ملت اسلامی کو اس کے بعد اپنے ایمان و اعتقاد اور اخلاق و عادات کی شکل و صورت دیکھنے کے لیے اب اور کس آئینہ کی ضرورت ہے!! اللہم صل علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و بیانا محمد و علی الیہ و اصحابہ و سلمہ۔

لغت

اٹھتے ہیں طوقاں تیز ہیں دھارے پیارے محمد شاہ دو عالم
 دین کی کشتی لاؤ کنارے پیارے محمد شاہ دو عالم
 چشم فلک کے ہیں یہ اشارے پیارے محمد شاہ دو عالم
 تم پہ بچھاؤ رچاؤ ستارے پیارے محمد شاہ دو عالم
 دید و دل کو بہر تسلی چاہیے ہلکی ہلکی تجلی
 آمنہ ماں کی آنکھ کے تارے پیارے محمد شاہ دو عالم

رنج جہاں کے دل پہ اٹھائے اپنے پرے سبکو بھلائے
 آکے پڑا ہوں در پہ تمہارے پیارے محمد شاہِ دو عالم
 کسکی ہے جرات انکو مٹائے سینے سے اپنے جو ہیں لگائے
 آپ کے لائے تیس سیپارے پیارے محمد شاہِ دو عالم
 چھائے ہوئے ہیں ابر ہزاروں کو ندر ہی ہیں بھلیاں سب
 تیرا ہے ناظر تیرے سہارے پیارے محمد شاہِ دو عالم

دورِ ہشام

معراج | بزرگانِ دین، صلحاء، اہلِ امت، صوفیاء کرام اور خدا کے تمام
 برگزیدہ بندوں کے حالاتِ زندگی جو آج دنیا میں موجود
 ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان بزرگوں کی عبادت و
 ریاضت اپنے عروج پر پہنچی تو ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی
 آیا جب ان بزرگوں کے دلوں کو نمایاں طور پر روحانیت کی روشنی سے
 معمور کیا گیا خدا سے تقابلے سے ان ہندگانِ خاص کو اپنی قدرت و شان
 کا وہ جلوہ دکھایا جو عام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ان کے
 سامنے سے عالمِ ظاہری کے سارے پرے ہٹا دیے گئے، اسی حجابات
 دور کر دیے گئے اور جلوہ حقیقت رو بر و کر دیا گیا۔ ان بزرگوں نے
 جو کچھ دیکھا وہ ہم نہیں دیکھتے اور وہ سنا جو ہم نہیں سنتے جب خدا نے

ان لوگوں کو جو انبیاء ہی کے پیرو اور انہیں کے نام لیوا تھے رو حانی کشف کا اتنا اونچا درجہ عطا کیا کہ ان کے نام نامی آج تک دنیا میں روشن ہیں تو پھر یہ تسلیم کرنے میں کس دلیل کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کی عظمت و بزرگی کا اہتمام روز ازل ہی سے کیا گیا تھا اور جو چند شاگردوں کی نہیں بلکہ قوموں کی تعلیم اور نیک عالمگیر فیض کے لیے مبعوث ہوئے ان کا روحانی مشاہدہ کس قدر اہم و باریک ہو گا! اور ان کامل ہستیوں کے پاس فیض ربانی کا کتنا زیادہ حصہ آیا ہو گا! چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے سب کو ان کی زندگی میں ایک بار اسی پراسرار روحانی مشاہدہ کا واقعہ ضرور پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے، اپنے رتبہ کی مناسبت سے عالم روحانی کی سیر کرائی اور حقیقت کا جلوہ دکھایا۔ انبیاء بنی اسرائیل خصوصاً حضرت یعقوب و حضرت موسیٰ علیہما السلام کے واقعات و بیدار بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے خواب یا بیدار میں بہت سے روحانی مناظر دیکھے اور خدا نے اپنے نورانی جلووں سے ان کے مقدس سینوں کو منور فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جلوہ حق نظر آیا اور انہوں نے خدا کا کلام سنا یہی ان کا روحانی مشاہدہ تھا۔ اور اسنی کو ان کی معراج کہہ لیجئے۔ حضرت یعقوب کے متعلق توراہ میں لکھا ہے کہ ”یعقوب فاران کی طرف گیا وہاں وہ ایک جگہ لیٹ کر سو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ زمین سے آسمان تک ایک زینہ لگا ہے جس پر فرشتہ چڑھتے ہیں

اور خدا کی رحمت سے لڑے ہوئے اترتے ہیں بسا سے اوپر خدا ہے وہ کہتا ہے "میں ہوں تیرا خداوند! تیرے باپ ابراہیم واسحاق کا خدا جس زمین پر تو سویا ہے وہ تیری نسل کو سونوں گا" یہ حضرت یعقوب کی معراج تھی انکی پاک روح کو اتنی بلند می عطا کی گئی کہ انھیں خدا اور اس کے فرشتوں کا دیدار ہوا اور خدا نے ان سے انکی نسل کی ترقی کا وعدہ کیا۔ گو حضرت یعقوب اس وقت سوتے تھے لیکن دل بیدار تھا انھوں نے جو کچھ دیکھا وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ دل کے کانوں سے سنا قرآن مجید نے اس پر اسرار روحانی مشاہدہ کے پیچیدہ مسئلہ کو بھی حل کر دیا ہے اور ہمارے یقین کے لیے کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی تصریح موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب عام انسانوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ سچے اور اصل ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے خوابوں کو قرآن شریف میں "روایا سے صادوقہ" کہا گیا ہے یعنی سچے خواب پیغمبروں کے حالات زندگی سے بھی ثابت ہے کہ جو کچھ انھوں نے خواب میں دیکھا وہ بعینہ انکی زندگی میں پیش آیا۔ دین ابراہیمی کے علاوہ کبھی تقریباً ہر قوم و مذہب کے پیشواؤں کے متعلق اس قسم کے بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ جب ان مقدس لوگوں کی آزمائش کی مدت ختم ہوئی تو ان پر روحانی اسرار کھل گئے اور ان کے سینوں کو عقل و حکمت کی روشنی سے بھر دیا گیا بہر حال یہ امر مسلمہ ہے کہ دنیا کی تاریخ الہی روایات سے خالی نہیں ہے کہ خدا کے مخصوص و منتخب بندوں کی حیات طیبہ کی خصوصیات کا ایک

لازمی جزویہ قربت اسی اور جلوہ ربانی رہا ہے اور ان بزرگوں کی نظروں کے سامنے سے تھوڑی دیر کے لئے تمام مادی حجاب ہٹا دیے گئے اور انہوں نے اپنی روح کی آنکھ سے عالم غیب کا مشاہدہ کیا زمینوں آسمانوں کی سیر کی اور قدرت خدا کے بہت سے کرشمے دیکھے اس کامیابی پر ان مقربان خاص کو خدا کے دربار سے انعام بھی عطا ہوئے وہ یہ کہ ہر ایک کو انکی طاقت و رتبہ کے موافق چند فرمان دیے گئے اور حکم ہوا کہ وہ خدا کے یہ فرمان دنیا میں اُس کے بندوں کو پہنچائیں اور انھیں اُن پر عمل کرنے کی ہدایت کریں کیونکہ یہ سب کچھ بندوں ہی کی بہبودی کے لیے تھا۔

معراج محمدی پیغمبر اسلام آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرور انبیاء اور رسول آخرت تھے آپ کی ذات اقدس پر تعلیم ربانی اور قانون الہی کی تکمیل ہونے والی تھی اس لیے آپ کو اس روحانی مشاہدہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین حصہ عطا کیا گیا۔ آپ نے عالم ملکوت میں وہاں تک رسائی حاصل کی جہاں تک آپ سے پہلے کسی برگزیدہ ہستی کو پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ نے قاب قوسین کے فاصلہ سے بھی کم یعنی دو کمانوں سے قریب تر ہو کر انوار الہی کا مشاہدہ کیا اور حضرت آدم سے لیکر قیامت تک کے تمام واقعات ثواب و عذاب جزاء و سزا جنت و دوزخ کے مناظر ملاحظہ فرمائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کی کھلی نشانیاں دکھا کر آپ کے یقین و ایمان کے لیے آخری سزا محبت فرمادی تاکہ آپ خدا کی عظمت و بزرگی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری

کا جو سبق انسانوں کو سکھائیں وہ کامل یقین و ذاتی مشاہدہ حقیقت کی بنا پر ہو کہ پھر قیامت تک اس میں نہ تو کسی رد و بدل کی گنجائش باقی رہے اور نہ تنک و شبہ کی کسی نئے خوب کہا ہے۔

نظر

عشق بہان ہوسن کے گھر آج کی رات
اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے
ماہ و انجم نے سر راہ پچھا دیں آنکھیں
کھکشاں جلوہ فشاں بھی ہے اسی رستہ سے
چاند کیا چیز ہے سوج کی حقیقت کیا ہو
اٹھ گیا چہرہ ہستی سے نقاب اسرار

جدیدہ دل ہے بہ غوش اثر آج کی رات
اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات
کیونکہ ہے ناوہ اثر اس کا سفر آج کی رات
نور الہی ہے محمد کا گزرا آج کی رات
پر تو نور سے روشن ہے نظر آج کی رات
لائی ہے راز امانت کی خبر آج کی رات

مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید

اپنی عراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات

قرآن شریف میں سورہ النجم معراج ہی کے متعلق ہے جس میں انسانی و مانع کے ان شہادت پر صاف تشبیہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ
بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَّىٰ فَقَدَّتْ ثَنِيَّتَهُ ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ
إِلَى عَبْدِهِ ۖ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَفَتُمَرُّونَهُ عَلَىٰ مَائِرِي ط
وَلَقَدْ مَرَّ بِالنُّزُلَةِ الْآخِرَىٰ ۖ مِنْ دُونِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ مِنْ عِنْدِ مَا حِجَّتِ الْمَاوَىٰ ۚ يَعْنِي

قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تھا در رفیق (محمد صلعم) نہ تو بھٹکا ہے نہ بھکا ہے وہ تو وہی کہتا ہے جو اسکو بتایا جاتا ہے اور بیشک اس کو بڑی طاقتوں والا اور بڑی حکمت والا تعلیم دیتا ہے وہ آسمان کے اونچے کنارے پر نمودار ہوا۔ پھر جھکا تو دو کمائوں سے قریب تر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بندہ سے کلام کیا قلب نے دکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اے لوگو! وہ جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے جھگڑتے ہو اور انھوں نے اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اس کے قریب جنت الماویٰ ہے۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے موافق اپنے اس روحانی شاہدہ کا ذکر اپنی قوم کے لوگوں سے کیا تو جس طرح مشرکین نے آپ کے دعویٰ نبوت کو ماننے سے انکار کیا تھا اسی طرح آپ کے واقعہ معراج پر ایسا استدلال ہے کہ اس کے بعد اور کسی تصدیق کی ضرورت باقی نہیں رہتی سورۃ اشرا، جو شروع سے لے کر اخیر تک آنحضرت صلعم کے اسی روحانی سفر کے اعلان و بشارتوں سے مملو ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمُتَجِدِّ الْحَرَامِ إِلَى الْبَيْتِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَأ كُنُوزَهُ لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندوں کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد ہم سب پرکتیں دسے کھیں ہیں تاکہ ہم

اپنے بندہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں بیشک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

شب معراج

اللہ اللہ عجیب انوار ہیں معراج کی رات
نور افشاں درو دیوار ہیں معراج کی رات
اہل محبوب کے آثار ہیں معراج کی رات
کھلنے کو پر وہ ہمسرا ہیں معراج کی رات
جلوئے حمت کے نمودار ہیں معراج کی رات
مکمل میں طرح گہر بار ہیں معراج کی رات
مرحبا سید کی مدنی العسرینی

دل و جاں باذوقیت چہ عجب خوش لقی

مرحبا آج قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں
خالق پاک کے محبوب جو کہلاتے ہیں
قدسیوں کا ہے یہ عالم کہ کچھ جاتے ہیں
دل بیتاب کو قابو میں نہیں پاتے ہیں
آمد شاہ کے چہرے انھیں تڑپاتے ہیں
ایکے ایک کتاب ہے حضور آتے ہیں

مرحبا سید کی مدنی العسرینی

دل و جاں باذوقیت چہ عجب خوش لقی

یہی بیماروں کو دارائے شفا دیتے ہیں
یہی بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں
راہ بھولے ہوؤں کو راہ بتا دیتے ہیں
یہی اللہ سے بندوں کو ملا دیتے ہیں
اپنے خسار سے پردہ جو اٹھا دیتے ہیں
گرد پھر پھر کے مشتاق صدا دیتے ہیں

مرحبا سید کی مدنی العسرینی

دل و جاں باذوقیت چہ عجب خوش لقی

دیکھ کر مسجد اقصیٰ سے جو سرکار بڑھے
پیشوائی کے لئے جرخ کے حصار بڑھے

انبیاء تھے جو وہاں طلب دیدار پڑھے کیا نبی کیا ملک و حور سب اکبار پڑھے
سب ملتے ہوئے اور احمد مختار پڑھے اس طرح کہتے زیارت کے طلب کار پڑھے

مرحبا سید کی مدنی العسری

دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقی

آسمانوں سے گذر کر وہ امام جبریل پہنچے سدرہ پہ جو تھا خاص مقام جبریل
بھرو یا بادہ مقصود سے جام جبریل آپ کے نام سے روشن ہوا نام جبریل
وال سہرا کے جو پڑھے لے کے سلام جبریل تھا یہی شاہ سہرا اس وقت کلام جبریل

مرحبا سید کی مدنی العسری

دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقی

آپ تنہا ہوئے رہی سوائے عرش اعظم عرش نے فخر کیا چوم کے حضرت کے قدم
اس جگہ ہوتے تھے مفہوم یہ مضمون بہیم آقرب کہ بہتیر سے مشتاق ہیں ہم
تیرے لینے کو ہے کھولے ہوئے آغوش کرم دیکھ کہتے ہیں تیری نشان میں کیا لوح و قلم

مرحبا سید کی مدنی العسری

دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقی

آقرب آ کہ کریں سوز و رحمت تجھ کو آقرب آ کہ ملے قرب کا خلعت تجھ کو
آج دکھلائیں گے ہم جلوہ وحدت تجھ کو آج پہنائیں گے ہم تاج شفاعت تجھ کو
دیکھ لائی ہے کہاں تیری محبت تجھ کو عرش اعظم بھی یہ تیا ہے نثار تجھ کو

مرحبا سید کی مدنی العسری

دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقی

فرضیت نماز روزہ

معراج کی ساعت آنحضرت صلعم کو
آپ کی اُمت کے لیے جو فرمان عطا

ہوئے وہ یہ تھے پانچ وقت کی نماز اور اُمت کی بخشش کا وعدہ۔ ان دو عظیموں کو اگر آنحضرت صلعم کے سفر اسرار کا انعام کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ جو آپ کو آپ کی کامیابی پر بارگاہ الہی سے مرحمت ہوا۔ نماز جو ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے اسکے بارے میں ارشاد ہوتا ہے "اے میرے رسول کہدے کہ سورج ڈھلنے سے لیکر رات کے اندھیرے تک نماز میں پڑھنا کرو اور فجر کی نماز میں دل خوب حاضر رہتا ہے۔ رات کے بیچ میں تہجد پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے نفل ہے عجب نہیں کہ تیرا پروردگار تجھے مقام محمود میں پہنچائے" سورہ بنی اسرائیل میں جو معراج ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے نماز پنجوقتہ کی یہ تفصیل ایسے دلچسپ پیرایہ میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے متعلق ایک بڑے مفسر کا کہنا ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت کلام مجید میں نہایت لطافت و خوبی سے بیان کی گئی ہے۔

شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آنحضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام کہ آپ نے اپنے

حق شفاعت

عروج کمال کی اس پُرست ساعت میں بھی اپنی گنہگار اُمت کو نہیں بھلایا اور خدا کے روبرو بھی ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس لمحہ خدا کی رحمت جوش میں تھی اور خدا نے تعالیٰ اپنی مہربانیوں کا سب سے زیادہ حصہ اپنے سب سے زیادہ محبوب بندہ کو عطا کرنا چاہتا تھا، آپ کی دعا

قبول ہوئی اور خدائے رحیم نے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے روز آپ کی
 امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کی بخشش کیلئے
 آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

پیارے بنو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے
 پر ہم جس قدر فخر کریں کم ہے اور آپ ایسے پیشوا سے مذہب کے پیرو ہونے
 پر ہمیں کیوں ناز نہ ہو کہ آپ کے سوا گنہگاروں کو انکی بخشش کی خوشخبری
 اور کس نے دی۔ اور خطا کاروں کو شکنجے کا پیغام اور کس نے سنایا!!

لغمت

نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں
 ہائے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھتا ترے فیروز میں اے شہیار ہم بھی ہیں
 ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلو تمھاری راہ میں مشتِ غبار ہم بھی ہیں
 کھلا دو غنچہٴ دل صدقہٴ بادِ امن کا امیدوار نسیم ہمار ہم بھی ہیں
 تمھاری ایک نگاہِ کرم میں سب کچھ ہے ٹٹے ہوئے تو سر رہ گزار ہم بھی ہیں
 جو سر پہ کھنے کو مل جائے نعلِ پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں
 کیس شہنشاہِ عالی کا صدقہٴ ثناب ہے

پڑی ہر خسرووں میں یہ پکار ہم بھی ہیں

آپ ہی کی ذات گرامی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے "مقام محمود" میں
 لے جانے کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کو ہم عاصیوں کی مغفرت کا وسیلہ بنا یا۔
 صحیح حدیث شریف میں مستند راویوں سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم

نے صحابہ سے فرمایا ”مجھے دیگر انبیاء پر چند فضیلتیں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے میری اُمّت کی شفاعت عطا کی گئی ہے۔ قیامت کے روز میں پہلا شفیع ہوں گا اور میرا رب میری اُمّت میں سے ہر اس شخص کو جس نے ایک خدا کی عبادت کی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا جنت میں داخل کرے گا اور دائمی آرام عطا فرمائے گا۔ الغرض قیامت کے روز جب دنیا ختم ہو رہی ہوگی۔ نظام عالم درہم برہم ہو رہا ہوگا۔ نیکی و بدی کا فیصلہ ہوگا۔ اور خدا کا وہ غضب ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وسیلہ سے ہماری مغفرت ہوگی اور اُمّت محمدی کو جنت الفردوس کا دائمی آرام و سکون عطا کیا جائے گا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

آنحضرت کی معراج کے فرمان و خوشخبریوں کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان

بارہ احکام

کیا گیا ہے کیونکہ یہ سورہ معراج ہی کے سلسلہ میں ہے۔ اس میں جو احکام آنحضرت صلعم کو عطا ہوئے وہ تعداد میں بارہ ہیں اور حقیقت میں انہیں دس احکام کا چربہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملے تھے۔ آنحضرت کے لیے ان میں دو کا اضافہ ہے۔ ان بارہ احکام کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں سفر اسرار کے ذکر کے بعد کی آیتوں میں نہایت جامع تفصیل کے ساتھ ہے مختصراً وہ احکام حسب ذیل ہیں:-

(۱) اپنے رب کے ساتھ دوسرے کو خدا نہ بنا۔

۱۲) ماں باپ کے ساتھ نیکی کر۔

۱۳) حق داروں کا حق نہ مار۔

۱۴) فضول خرچی نہ کر کہ یہ شیطان کا کام ہے اور کنجوسی بھی نہ کر۔

۱۵) اپنی اولاد کو جان سے نہ مار۔

۱۶) بُرا کام نہ کر کہ یہ بے حیائی ہے۔

۱۷) ناحق کسی کی جان نہ لے۔

۱۸) یتیموں کا مال نہ کھا۔

۱۹) وعدہ پورا کیا کر کہ تجھے اسکا جواب دینا ہوگا۔

۲۰) ناپنے تو لنے میں بے ایمانی نہ کر۔

۲۱) نامعلوم بات کا پیچھا نہ کر۔

۲۲) زمین پر غرور کی چال نہ چل۔

آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باتیں عقلندہ کی ان باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہیں اگر بہ نظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پارہ احکام انسان کے لیے تعلیم اخلاق کا پنچر ہیں۔ اگر دنیا انکے بنیادی اصولوں پر قائم رہے اور انسان اپنی ہدایت کے لیے ان سے فطری قانون مرتب کرے تو پھر دین و دنیا دونوں کی فلاح کے لیے کوئی اولہ تعلیم درکار نہیں۔

آئیے ہم آپ سب مل کر محبوب رب العالمین خاتم النبیین تاجدار دو عالم حضرت

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسی میں ہدیہ سلام پیش کریں۔

سلام

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

فخیر آدم فخیر حوا فخیر نوح و فخیر یحییٰ
فخیر ابراہیم و موسیٰ فخیر اسمعیل و عیسیٰ

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے

عرش کے معراج والے عاصیوں کے لاج والے

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

ہے یہ حسرت در پہ آئیں اشک کے در یا بہا میں

داغ سینہ کے دکھائیں سامنے ہو کر سنائیں

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

نور رب العالمین ہو جلوۂ حق الیقین ہو

سرور دنیا و دین ہو دل میں آنکھوں میں لگیں ہو

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

یا دشاہ انبیا ہو نور ذات کبریا ہو
حامی روز جزا ہو خلق کے مشکل کشا ہو

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

قابل مدح و ثنا ہو جو کہوں اُس سے سوا ہو
آپ کی توصیف کیا ہو یعنی محبوب خدا ہو

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ

وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ

دُعا

ختم میلاد شریف پر حسب ذیل دعائیں پڑھنے والا باواز بلند پڑھے
اور ساتھیوں ہر جگہ سے بعد آئین کہیں۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا خَشِرْنَا وَكَلَّخْنَا أَلْبَابَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا

تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

رَبَّنَا أَلْمِزْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ه
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ه
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّأَخِيَّتِنَا أَوْ أَحْبَبْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إغْرَابًا
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا لَهَا قَتَّةٌ لَّنَا بِهِ
 وَاشْفَعْ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ ه

پیارے رسول کی پیاری باتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اقوال پڑھنا اور ان پر عمل کرنے
 کی کوشش کرنا دونوں جہاں کی سعادتوں کا باعث ہے۔ ذیل میں آنحضرت
 کے چند اقوال درج کر رہی ہوں جن میں اکثر خواتین ہی کے متعلق نہیں
 تاکہ بہنیں ان کو پڑھیں، یاد کریں اور دوسری بہنوں تک پہنچائیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت
 اعمال کا مدار نیت پر ہے | ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ تمام عمل کا مدار نیت پر ہے ہر شخص کو
 اسکی نیت کے مطابق اجر ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے
 ہجرت کرے گا تو اسکی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور
 جو دنیا کے حصول کے لیے کرے گا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے تو اسکی
 ہجرت اسی کے لیے ہوگی جسکے لیے وطن ترک کیا۔ (بخاری و مسلم)

آنحضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مشعل ہدایت تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گی تو کبھی نہ بھٹکو گی۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری نبی کی سنت۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا صدقہ ہے (بخاری و مسلم)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق حق بات کہنا بات کہہ چاہے وہ تلخ کیوں نہ ہو۔

(بخاری و مسلم)

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کی فضیلت کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دوا کر لیا

بہرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا میں اور وہ اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ (مسلم)

مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے اگر اسکی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت اس کو خوش کر سکتی ہے۔

دنیا کی بہترین دولت
حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین دولت نیک بخت بیوی ہے۔

شوہر کی ناراضگی
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے اور وہ رات کو اس سے ناراض رہے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔

شوہر کی اجازت
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جائز نہیں کہ اس کا شوہر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت

کے بغیر نفل کے روزے رکھے اور بغیر اسکی اجازت دوسروں کو اس کے گھر میں بلائے۔

تم میں کا ہر ایک حاکم اور ذمہ دار ہے روایت ہے کہ نبی حضرت ابن عمر سے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر ایک حاکم ہے ہر ایک اپنی
رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے
عورت اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے لہذا تم سب
متھاری رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔

شوہر کی اطاعت اور تعمیل حضرت ابو علی طلح بن علی سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو بلائے تو وہ آئے اگرچہ
تنور پڑ بیٹھی ہو۔

شوہروں کی تعظیم کی انتہا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے
شوہروں کو سجدہ کریں۔

شوہر کی رضا مندی کا نتیجہ حضرت ام المومنین ام سلمہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت مرجائے اور اس کا شوہر اس سے

راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

اولاد پر خرچ کر نیکاً ثواب
حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا میرے لیے ابوسلمی کے حضرت ام سلمہ کے
پہلے شوہرا بیٹوں پر خرچ کرنے میں اجر ہے۔ میں انکو بری حالت پر
چھوڑنا نہیں چاہتی اور وہ میری ہی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں
جو کچھ بھی تم خرچ کرو تمہیں اجر ملے گا۔

بچوں کو نماز کی تاکید اور تنبیہ
حضرت عمرو بن شعیب سے
روایت ہے وہ اپنے باپ سے
روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد جب سات برس کی ہو تو
نماز کی تاکید کرو اور جب دس برس کا بچہ ہو تو مار کر نماز پڑھاؤ اور
ان کے بستر الگ کر دو (ابوداؤد) حضرت ابوسیرۃ ابن معبد الجہنی سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے سات
برس کے ہوں تو نماز کی تاکید کرو اور جب دس برس کے ہوں تو ان کو
مار مار کر نماز پڑھاؤ۔

ہمسایہ کے ساتھ بھلائی
حضرت ابو شریح الخزاعی سے روایت
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ

بھلائی کرے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے وہ اپنے مہمان کی خاطر
 کرے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے وہ کھلی بات کے ورنہ خاموش رہے
 حضرت عائشہؓ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ
 قریب تر پڑوسی زیادہ مستحق ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے
 دو پڑوسی ہیں میں کسکی طرف تحفہ بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ
 تم سے زیادہ قریب ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 ماں کا حق اور فضیلت ایک شخص بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میرے اچھے برتاؤ کا کون زیادہ حق دار
 ہے آپ نے فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر فرمایا
 تیری ماں۔ کہا پھر فرمایا تیرا باپ اور ایک روایت میں ہے کہ اس
 آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اچھے برتاؤ کا کون زیادہ مستحق ہے
 آپ نے فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر فرمایا تیرا
 باپ۔ کہا پھر فرمایا جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ جو سب سے
 زیادہ قریب ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
 ماں باپ کی بڑھاپے میں خد
 ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا خاک آلودہ ہونا ک خاک آلودہ ہونا ک اس کی جس نے
 اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ داخل ہوا۔

حضرت عبداللہ
والدین کی خدمت و رفاقت میں جہاد کا ثواب بن عمرو بن العاصی
سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور
کہا میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ
سے اس کا اجر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں کوئی
زندہ ہیں کہا ہاں دونوں زندہ ہیں فرمایا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو
بس تم اپنے والدین کی طرف پلٹ جاؤ اور ان سے اچھے برتاؤ
کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی نے کی ممانعت نہ اپنے لئے بددعا کیا کرو نہ اپنی اولاد
کے لئے اور نہ اپنے خدمت گزار کے لئے نہ اپنے مال و دولت
کے لئے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعا کرتے وقت قبولیت کا وقت
ہو اور وہ بددعا قبول ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: "اے مسلمان عورتو! بڑوسن کے تحفہ کو حقیر سمجھنا
کوئی بڑوسن اپنی بڑوسن کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر اور ہلکا نہ سمجھے
چاہے بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو (مشکوٰۃ)

حضرت انس سے روایت ہے آنحضرت
جہاد کا ثواب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا: کسی عورت

کا اپنے گھر گریستی کا کام کرنا اس کو جہاد کرنے کے مرتبہ پر پہنچانا
 ہے۔
 دکنز العمال

حضرت انسؓ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 پاکبازی نے فرمایا: "تمہاری بیبیوں میں سب سے اچھی وہ عورت
 ہے جو اپنی آبرو میں پارسا ہو اور اپنے شوہر پر فریفتہ" دکنز العمال
 نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا: "اللہ کی
 اللہ کی رحمت رحمت نازل ہو اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر
 تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگا دے"
 دکنز العمال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مزدوری کی ادائیگی میں جلدی کرنا فرمایا کہ مزدور کو اسکا پسینہ
 خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بعض
 باریک کپڑا پہننا عورتیں نام کو کپڑے پہنتی ہیں اور حقیقت
 میں تنگی ہیں ایسی عورتیں نہ تو بہشت میں جائیں گی اور نہ اسکی خوشبو
 سونگھنے پائیں گی۔"

فائدہ کا: باریک کپڑے سے ایسا کپڑا مراد ہے جس کے
 اندر سے جسم نظر آتا ہو۔

مردوں کی وضع بنانا "اُس عورت پر لعنت ہے جو مردوں کا

ساپنا واپنے"

رحم کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص لوگوں پر

رحم نہیں کرتا اللہ اُس پر رحم نہیں کرتا۔

کسی کی ذلت پر خوش ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ "اپنے کسی مسلمان بھائی کی

مُصیبت پر خوشی مت کرو نہیں تو اللہ اُس پر رحم کرے گا اور تجھ کو

اُس میں پھینا دے گا"

چھوٹے گناہوں سے بچنا نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا

"اے عائشہ اپنے کو چھوٹے

گناہوں سے بھی بچاؤ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس کا مواخذہ

کرنے والا موجود ہے" "یعنی فرشتہ اُنکو بھی لکھتا ہے"

پہلے گھر میں جھانکنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"جتنا اجازت نہ لے کسی کے گھر

میں جھانک کر نہ دیکھے۔ اگر ایسا کیا تو گویا اندر ہی چلا گیا۔ (یعنی

جھانکنا اندر چلے جانے کے برابر ہے)

بول چال بند کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان

بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے۔ جو تین دن سے
زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے وہ دوزخ میں
جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے
بیان کر کے رونا زونی والی عورت پر اور جو بیان سننے میں
شریک ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا "جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کی قسم
کھائے اس نے کفر کیا" ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یوں کہے
کہ مجھے ایمان نصیب نہ ہو یا کلمہ نصیب نہ ہو دراصل ایسا ہی ہو جائے گا۔
ایسی باتوں کی سخت ممانعت ہے۔

آنحضرت صلعم کی زندگی کے


مشہور واقعات کی تاریخیں

نمبر شمار	مشہور واقعہ	تاریخ و سنہ ہجری	تاریخ و سنہ عیسوی
۱	ولادت سرکارِ دو عالم	۵ قبل ہجرت	۶۵۶۰-۶۱ اگست
۲	ولادت حضرت صدیق اکبرؓ	۵۰	۶۵۶۳-۶۲
۳	وفات حضرت آمنہ والدہ آنحضرتؓ	۲۶	۶۵۶۶-۶۵
۴	وفات حضرت عبدالمطلب	۲۵	۶۵۶۸
۵	ولادت حضرت عمر فاروقؓ	۳۰	۶۵۸۲-۸۳
۶	مکہ شام کا پہلا سفر	۳۱	۶۵۸۶
۷	دوسرا سفر	۳۸	۶۵۹۵
۸	حضرت خدیجہؓ سے نکاح	۲۸	۶۵۹۵
۹	ولادت حضرت علیؓ	جسب ۲۳ ۵۲	۶۶۰۱-۹۰
۱۰	تجدید بنائے کعبہ	۱۸	۶۶۰۵
۱۱	آغازِ وحی	۱۳	۶۶۹-۱۰
۱۲	حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہؓ کا اسلام لانا	۱۲	۶۶۱۳-۱۲
۱۳	صحابہؓ کی ہجرت حبشہ کی طرف	۱۲	۶۶۱۵

نمبر شمار	مشہور واقعہ	تاریخ و سنہ ہجری	تاریخ و سنہ عیسوی
۱۴	وفات ابوطالب	۳ قبل ہجرت	۶۱۹ء
۱۵	وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ	۳	۶۱۹ء
۱۶	سفر معراج شریف	۱۲	۶۲۱ء
۱۷	ہجرت مدینہ	۱۲ صفر ۱	۶۲۲ء
۱۸	جنگ بدر	۲۳ رجب ۲	۶۲۴ء
۱۹	جنگ احد	شوال ۳	۶۲۵ء
۲۰	صلح حدیبیہ و بیعت رضوان و قبول اسلام حضرت خالد و عمر بن عاص	ذیقعد ۶	۶۲۶ء
۲۱	شاہان روم و ایران کو دعوت اسلام	۶	۶۲۶ء
۲۲	غزوہ خیبر	۱۲	۶۲۷ء
۲۳	فتح مکہ	۱۲ رجب ۳	۶۲۹ء
۲۴	جنگ تبوک و فرضیت حج بیت پرستی کا غامہ	۱۲ رجب ۳	۶۳۰ء
۲۵	حج حضرت ابوبکر صدیق	۱۲ رجب ۳	۶۳۱ء
۲۶	حجۃ الوداع	۱۲ رجب ۳	۶۳۲ء
۲۷	سفر آخرت سرکار و دو عالم	۱۲ رجب الاول	۶۳۲ء

میلاد شمسی

18



مؤلف محترمہ شمسی عباد الرحمن صاحبہ

دبجہ، رام کمار پریس لکھنؤ میں چھپا

مکتبہ جدید لاہور